

کیف آئم را ذکر این مسیح فیک و امام مکم منکر متنق عیه

# اسلام میں امام مدنی (رض) کا تصویر

امام مدنی متفق است کہ عقیدہ نما انساب ایت خلیفی عدالت  
ظہور مدنی تھیں ایں امام مدنی متفق کا دین دانی تباہی رہیں،  
نکاریں و مذکون دعویت اکہ پڑامارک آگر و فنا کی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
حَمْدُهُ مُولَاهُ لِمَنْ يُرَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
إِنَّمَا يَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَنْفُسِ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ

مؤلف  
مولانا فضل محمد مظفر قبل  
قاضی جامع عاصفیہ

يَكُونُ فِي تَخْرِيمِ خَلِيفَةٍ يَحْشِي الْمَالَ حِيثَا وَلَا يَعْدُهْ عَدَا مُشْرِفِ  
كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَّلْتُ إِلَيْكُمْ مَرِيعَ فِيكُمْ وَأَمَمْكُمْ مِنْكُمْ مُتَقْبِلُ

# اسلام میں امام محمدی (رضی اللہ عنہ) کا تصویر

امام محمدی سے تعلق ہست ابھا عتیقہ نام و نسب سیرت فاطمیہ علامات  
ظہر مہدی، حسین بن امام محمدی سے تعلق احادیث و اعاتی تاظہ میں،  
منکرین و بیان مدد و قیمت اکابر علماء کی آراء و فتاویٰ

از افتادا  
حضرت مولانا فیض محدث یوسف خان حنفیہ  
استاذ احمدی ثنا شاہزادہ فیضیہ

مؤلف  
محمد حافظ راقیوال  
حاصل جامعہ اسلامیہ

بیت العلوم

۲۰۔ ناجہہ دو۔ پرانی انارکلی لانجہر۔ فرن: ۱۳۵۴۔

## ﴿ جملہ حقوق بحق ناشر مخدوشیں ﴾

**نام کتاب** اسلام میں امام مهدی کو تصور  
**مؤلف** حافظ محمد قفر اقبال (فاضل جامع شریف لاہور)  
**اقفادات** پروفیسر مولانا محمد نبیف خان صاحب  
 (استاذ المحدث جامع شریف لاہور)

**محل انتشار** محمد علیم اشرف  
 بیت الحروم - ۲۰۰ حصہ روڈ، چک پرانی انارکلی، لاہور  
**فون:** ۷۳۸۹۳۳

بازتھام  
ناشر

## ﴿ ملے شکے پتے ﴾

بیت الحروم = ۲۰۰ حصہ روڈ، پرانی انارکلی، لاہور	بیت اکتب = گلشن اقبال، کراچی
ادارہ اسلامیات = ۱۱۹۰، انارکلی، لاہور	ادارہ الحارف = ڈاک خانہ دار الحروم کوئی کراچی نمبر ۱۷
ادارہ اسلامیات = موہن روڈ چک اردو بازار کراچی	کتبخانہ دار الحروم = جامعہ دار الحروم کوئی کراچی نمبر ۱۷
دارالاشاعت = اردو بازار کراچی نمبر ۱۷	کتبخانہ احمد عہدید = الکریم ہار کیٹ، اردو بازار، لاہور
بیت القرآن = اردو بازار کراچی نمبر ۱۷	کتبخانہ عائی = غزالی سڑک، اردو بازار، لاہور

## فہرست مضمایں

نمبر شمار	عنوان	صفہ نمبر
۱	تقریظ (حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب)	۱۵
۲	کلمات بارکات (حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب)	۱۶
۳	تقریظ (حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب)	۱۷
۴	پیش لفظ (حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب)	۱۸
۵	عرض مؤلف	۲۱
۶	مقدمہ کتاب (حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب)	۲۲
	<b>باب اول</b>	
	<b>﴿ عقیدہ ظہور مہدی ﴾</b>	
۷	وہ آیات جن میں امام مہدیؑ کی طرف اشارہ ہے	۳۰
۸	ظہور مہدیؑ الحسنت والجماعت کا عقیدہ	۳۳
۹	ظہور مہدیؑ کی قطعیت	۳۵
۱۰	امام مہدیؑ کے لیے "رضی اللہ عنہ" کا خطاب	۳۶
۱۱	حضرت مہدیؑ کے لیے "امام" کا خطاب	۳۶
۱۲	حضرت امام مہدیؑ کے بارے میں اہل حق کا فتویٰ	۳۷
۱۳	امام مہدیؑ سے متعلق روایات کے اوی صحابہ کرام	۳۸
۱۴	علماء کرام کی احادیث مہدیؑ کی بابت آراء	۳۹
۱۵	وہ کتابیں جن میں ضمناً امام مہدیؑ کا تذکرہ ہے	۴۰
۱۶	امام مہدیؑ کے بارے میں مستقل تصانیف	۴۰

۵۱	امام مہدیؑ افضل یا شیخین؟	۱۷
۵۲	علامہ سید علیؑ کا جواب	۱۸
۵۳	علامہ ابن حجر یتّمیؑ کی کتاب کا جواب	۱۹
۵۴	علامہ سید محمد برزنجیؑ کا جواب	۲۰
باب دوم		
﴿حضرت امام مہدیؑ کا نام و نسب﴾		
۵۹	حضرت امام مہدیؑ کا نام	۲۱
۶۳	حضرت امام مہدیؑ کا نسب	۲۲
۶۵	لفظ "عترت" کی تحقیق	۲۳
۶۷	حضرت امام مہدیؑ حسنی ہوں گے یا حسنه؟	۲۴
۷۰	ایک عجیب نکتہ	۲۵
۷۱	کیا حضرت امام مہدیؑ، حضرت عباسؓ کی اولاد میں سے؟	۲۶
۷۳	حضرت امام مہدیؑ کا لقب اور کنیت	۲۷
۷۶	حضرت امام مہدیؑ کی جائے پیدائش	۲۸
۷۷	حضرت امام مہدیؑ کی سیرت	۲۹
۷۷	امام مہدیؑ کی قیادت	۳۰
۷۸	امام مہدیؑ کا زمانہ	۳۱
۷۹	امام مہدیؑ کی سخاوت	۳۲
۸۱	حضرت امام مہدیؑ کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا اجمانی نقشہ	۳۳
۸۳	حضرت امام مہدیؑ کا حلیہ مبارک	۳۴
۸۲	حضرت امام مہدیؑ کی خلافت، علی منہاج الدوۃ ہوگی	۳۵

۸۷	تبیہ	۳۶
	باب سوم	
	﴿ظہور مہدیؑ کی علامات﴾	
۹۱	علامت نمبر ۱	۳۷
۹۲	علامت نمبر ۲	۳۸
۹۳	علامت نمبر ۳-۴	۳۹
۹۴	علامت نمبر ۵ مع فائدہ	۴۰
۹۵	علامت نمبر ۶	۴۱
۹۶	علامت نمبر ۷	۴۲
۹۷	علامت نمبر ۸	۴۳
۹۸	علامت نمبر ۹-۱۱	۴۴
۹۹	علامت نمبر ۱۲-۱۳	۴۵
۱۰۰	علامت نمبر ۱۴-۱۵	۴۶
۱۰۱	علامت نمبر ۱۶-۱۷	۴۷
۱۰۲	علامت نمبر ۱۹	۴۸
۱۰۳	علامت نمبر ۲۰-۲۳	۴۹
۱۰۴	علامت نمبر ۲۴-۲۷	۵۰
۱۰۵	فائدہ	۵۱
۱۰۶	علامت نمبر ۲۸	۵۲
۱۰۷	علامت نمبر ۲۹	۵۳
۱۰۸	علامت نمبر ۳۰	۵۴
۱۰۹		

باب چہارم ﴿ظہور مہدیؑ سے قبل کے واقعات﴾	
۱۱۳	خروج سفیانی ۵۵
۱۱۴	سفیانی کا نام ۵۶
۱۱۵	سفیانی کی حکومت اور مدت حکومت ۵۷
۱۱۶	قتنه سفیانی کی تخت ۵۸
۱۱۷	خروج سفیانی کی کیفیت ۵۹
۱۱۸	تبیہ (زروم اتحقاقی، زروم تفصیلی) ۶۰
۱۲۰	سفیانی کا جنڈا ۶۱
۱۲۱	خروج سفیانی کا اجمالی نقشہ ۶۲
۱۲۲	فائدہ ۶۳
باب پنجم ﴿ظہور مہدیؑ ترتیب زمانی کے ساتھ واقعات کے تناظر میں﴾	
۱۲۳	دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برا آمد ہوگا ۶۴
۱۲۴	سفیانی کی ایقون اور اصحاب وغیرہ سے جنگ ۶۵
۱۲۵	سفیانی کی ترک اور روم سے جنگ ۶۶
۱۲۶	سفیانی کا فساد برپا کرنا ۶۷
۱۲۷	امام مہدیؑ کا مکہ میں روپوش ہونا ۶۸
۱۲۸	گورنر مکہ کا دھوکہ دینا ۶۹

۱۳۱	حج کی ادائیگی کا امیر کے بغیر ہونا	۷۰
۱۳۱	سات بڑے بڑے علماء کا امام مہدیؑ کو جلاش کرنا	۷۱
۱۳۱	فائدہ	۷۲
۱۳۲	امام مہدیؑ کا مجرم اسود کے پاس ملنا	۷۳
۱۳۳	فائدہ	۷۴
۱۳۳	امام مہدیؑ کا بیعت لینا	۷۵
۱۳۳	امام مہدیؑ کا پہلا خطبہ	۷۶
۱۳۴	امام مہدیؑ کے اعوان و النصار	۷۷
۱۳۵	ابوالعصاib اور نجباء سے کون لوگ مراد ہیں؟	۷۸
۱۳۸	مقام بیداء میں شکر سفیانی کا دھننا	۷۹
۱۳۸	اہل خراسان پر کیا بیتی؟	۸۰
۱۳۹	خراسان سے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانگی	۸۱
۱۴۰	سفیانی کے ساتھ جنگیں	۸۲
۱۴۰	کلمہ حق کہنے کی سزا	۸۳
۱۴۱	امام مہدیؑ کی کرامت	۸۴
۱۴۱	سفیانی کا بیعت کرنا	۸۵
۱۴۲	عہد عکنی	۸۶
۱۴۳	سفیانی کا قتل	۸۷
۱۴۳	مال غنیمت کی تقسیم	۸۸
۱۴۴	استحکام اسلام	۸۹
۱۴۴	فائدہ	۹۰
۱۴۴	جنگ عظیم	۹۱

۱۳۵	فوج کاروانہ ہوتا ۹۶۰۰۰۰	۹۲
۱۳۶	رومیوں کا مطالبہ اور لشکر اسلام کے تین حصے	۹۳
۱۳۷	شام پر رومیوں کا قبضہ	۹۴
۱۳۸	رومیوں کی نکست	۹۵
۱۳۹	باتی ماندہ لشکر کے تین حصے	۹۶
۱۴۰	جبریل و میکائیل کا فرشتوں کی فوج لے کر اترنا	۹۷
۱۴۰	رومیوں کی دھوکہ وہی	۹۸
۱۴۱	خلیج کا محاصرہ	۹۹
۱۴۲	خروج و جال	۱۰۰
۱۴۲	جنگ خلیج کی تفصیل ایک دوسری روایت سے	۱۰۱
۱۴۳	بیت المقدس کا خزانہ	۱۰۲
۱۴۴	نفرہ بکیر سے شہر خ ہو جائے گا	۱۰۳
۱۴۵	پوری دنیا کی حکمرانی	۱۰۴
۱۴۶	جنگ خلیج کے بعد کیا ہو گا؟	۱۰۵
۱۴۷	حضرت امام مہدیؑ کی وفات اور ان کی مدت حکومت	۱۰۶
۱۴۸	ظہور کے وقت امام مہدیؑ کی عمر	۱۰۷
۱۴۹	امام مہدیؑ کا انتقال طبعی ہو گا	۱۰۸
باب ششم		
﴿احادیث و آثار متعلقہ بالا امام المہدیؑ﴾		
۱۵۰	صحیحین کی وہ روایات جو امام مہدیؑ سے متعلق ہیں	۱۰۹
۱۵۱	روایت نمبر:	۱۱۰

۱۷۱		روايت نمبر: ۲	۱۱۱
۱۷۲		روايت نمبر: ۳	۱۱۲
۱۷۳		روايت نمبر: ۴	۱۱۳
۱۷۵		فائدہ	۱۱۴
۱۷۶		روايت نمبر: ۵	۱۱۵
۱۷۷		فائدہ	۱۱۶
۱۷۷		تسبیح	۱۱۷
۱۷۷		روايت نمبر: ۶	۱۱۸
۱۷۹		فائدہ	۱۱۹
۱۸۱		روايت نمبر: ۷	۱۲۰
۱۸۱		فائدہ	۱۲۱
۱۸۲		روايت نمبر: ۸	۱۲۲
۱۸۳		فائدہ	۱۲۳
۱۸۵	روايات صحابہ در بارہ امام مہدی علیہ الرضوان		۱۲۴
۱۸۵	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت		۱۲۵
۱۸۶	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت		۱۲۶
۱۸۶	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت		۱۲۷
۱۸۷	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت		۱۲۸
۱۸۸	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت		۱۲۹
۱۸۸	حضرت حفصة رضی اللہ عنہا کی روایت		۱۳۰
۱۸۹	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی روایت		۱۳۱
۱۹۰	حضرت ام جبیر رضی اللہ عنہا کی روایت		۱۳۲

۱۹۰	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت	۱۳۳
۱۹۲	حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۲
۱۹۲	حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۳۵
۱۹۳	حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۶
۱۹۳	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۷
۱۹۳	حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۸
۱۹۳	حضرت عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۹
۱۹۳	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۰
۱۹۵	حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۴۱
۱۹۵	حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۲
۱۹۶	حضرت ابوامام رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۳
۱۹۷	حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۴۴
۱۹۸	حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۴۵
۱۹۸	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۶
۱۹۹	حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۴۷
۲۰۰	حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۸
۲۰۰	حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۹
۲۰۱	حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۰
۲۰۲	حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۱
۲۰۲	حضرت عمرو بن سکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۲
۲۰۳	حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۳
۲۰۳	حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۴

## لقریط

جامع المعقول والمنقول، استاذ العلماء والفقهاء، محقق زماں، مقرر شیریں بیان  
حضرت مولانا عبدالرحمٰن اشرفی صاحب مدظلہ العالی۔

الحمد لله و كفى والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد!  
حضرت علي مرضي رضي الله عنه کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضي الله عنه  
سریر آرائے خلافت ہوئے اور چھ ماہ بعد حضرت معاویہ رضي الله عنه کے حق میں خلافت  
سے دستبردار ہو گئے تو ”المشاهدہ بقدر المجادہ“ کے تحت بارگاہ خداوندی سے ان کو یہ انعام  
دیا گیا کہ آخر زمانے میں ان کی اولاد میں سے ایک جلیل القدر خلیفہ ہونا مقرر فرمادیا جس  
کو دنیا ”مہدی“ کے نام سے جانتی ہے۔

عربی زبان میں اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں سے  
اکثر نادر و نایاب ہیں اور جو دستیاب ہیں، ان سے اردو و ان طبقہ مستفید نہیں ہو سکتا نیز اس  
موضوع پر اردو میں ایک آدھ کتاب ہی کا حوالہ ملتا ہے جس میں مکمل تفصیلات نہ ملنے کی وجہ  
سے قاری تشنگی کا شکار رہتا ہے اس لحاظ سے عزیزم محمد ظفر سلمہ کی غالباً یہ چہلی کاوش ہے جو  
اس موضوع پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کی آئینہ دار اور اس کی تفصیلات کو حاوی ہے۔  
اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائیں اور عزیزم ذکور کو مزید تصنیفی  
خدمات سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔

آمین

عبدالرحمٰن اشرفی

خادم الحدیث جامعہ اشرفیہ مسلم ناؤن لاہور۔

۱۶، جمادی الاولی ۱۴۲۵ھ

## کلماتِ بارکات

بحر العلوم، نمونہ، اسلاف، رأس الاقیاء  
حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ادام اللہ بقاوہ علینا

هذه المقالة من مولانا محمد ظفر اعز الله ایاہ، موجبات،  
سابلات، رائعتات، صادقات جزی اللہ ایاہ.

### اخبار المقالة

موجبات، سابلات، صادقات رائعتات، مفرحت، یاقریب  
فهمها عالم لحق یا حبیب اسمعوا سمعاً قبولاً یا لیب  
ماهیات، ثابتات، یارغیب فاقروها و انظروا ہا یا قریب

(نوٹ) رقم المعرف کی درخواست پر حضرت الاستاذ نے پہلے نظر میں مندرجہ بالاعبارات تحریر فرمائی تھی، بعد میں اشعار کے اندر اپنی تقریباً کوازن خودی منتقل فرمایا، اور باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ ان دونوں کو بطور یادگاری نظر مقالہ کا حصہ بنادیا جائے۔

ذہن میں رہے کہ حضرت نے اس بات کی نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ مذکورہ اشعار بحر ملک نام کے دزان پر ہیں۔

## تقریط

استاذ العلماء، مقرر شیریں بیان، نائب مہتمم جامعہ اشرفیہ

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مدظلہ

عزیزم مولوی حافظ محمد ظفر سلمہ کا مقالہ کا مختلف مقامات سے معاینہ کیا دلی خواہش پیدا ہوئی کہ یہ مقالہ اگر جلد از جلد طبع ہو جائے تو اس تحقیق اور ریسرچ سے بہت سارے احباب کو نفع ہو گا۔

یہ مقالہ جو کہ اب پوری کتاب کی شکل میں تیار ہو چکا ہے اور جس میں تمام امور کے حوالہ جات لکھے گئے ہیں اور پھر سلف صالحین کے اقوال اور احادیث مبارکہ سے ان کو مزین کیا گیا ہے۔

میری دیانت دارانہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقت پسندی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا تو یہ بات بالکل عیاں ہو کر اس کے سامنے آجائے گی کہ سیدنا حضرت امام مہدیؑ کی آمد حقیقت پرمنی ہے اور اس سے انکار تعصب اور عناد کی وجہ سے ہی کیا جا سکتا ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میرے اس عزیز اور اس کے اساتذہ اور اس کتاب کے ناشر کے لیے اس کتاب کو صدقہ جاریہ بنادے۔ آمين

(حافظ) فضل الرحمن

خادم الطلیاء جامعہ اشرفیہ لاہور

۱۰ جمادی الثانی ۱۴۲۵ھ

## پیش لفظ

استاذ العلماء، مقرر شعلہ بیان، سرپرست و مرتبی من  
حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم  
الحمد لله رب العالمین و سلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعداً

وجو مہدی، علامات مہدی اور عقیدہ ظہور مہدی

یہ وہ معرکۃ الآراء، اہم اور سمجھیدہ موضوع ہے جس پر اردو ادب اور دینی لٹریچر  
میں کوئی سمجھیدہ اور اہم تحریر مکمل وضاحت و صراحت سے موجود نہیں، اگر ہے بھی تو وہ  
خارجیت یا رافضیت کے زیر اثر افراط و تفریط کا شکار۔

راہ اعتدال پر گامزنا رہتے ہوئے، مناظرانہ رنگ لیے بغیر اس موضوع پر اہل  
سنۃ والجماعۃ کا موقف مکمل احتیاط اور ولائیں و برائیں سے آراستہ فی الحال دستیاب نہیں۔  
ممکن ہے کہ کبھی اس موضوع پر مناظرانہ مبالغہ آرائی کے بغیر کچھ لکھا گیا ہو جو، اب موجود  
نہیں۔

اس موضوع کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس میں راہ اعتدال اور مسلک  
اکابر کو ہر آن پیش نظر رکھنا ہی اس موضوع سے انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہے، ایک بال  
برابر آگے پیچھے ہونا رافضیت کی اندر ہر نگری میں گرنے یا خارجیت کے نہری جال میں  
پھنسنے کے مترادف ہے۔

زیر نظر مقالہ جو جامعہ اشرفیہ کے ہونہار اور ذی استعداد طالب علم حافظ مولوی  
محمد ظفر مسلمؒ کی تحقیق و کاؤش کا نتیجہ ہے، کئی اعتبار سے علم دوست اور صاحبان ذوق کے

لیے تکمیل کا سامان لیے ہوئے ہے۔

(۱) ازاول تا آخر تحریر اپنے موضوع سے مکمل مربوط اور زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔

(۲) وہ تمام کتب جن کے حوالے درج کیے گئے ہیں، ان کے تمام حوالہ جات اصل کتابوں سے اخذ کردہ ہیں۔

(۳) سب سے اہم اور خاص بات یہ کہ پورے مقاٹے میں کہیں بھی مناظرے، مجادے اور مکابرے کا رنگ نظر نہیں آتا جو میرے خیال میں ایک مشکل ترین کام تھا جسے بخوبی انجام دیا گیا۔

(۴) ایک اور اہم ترین اور خاص بات یہ ہے کہ ملک کے ماہی ناز علیٰ مرکز اور دینی مدارس کے تقدیق شدہ فتاویٰ جات مسلک ہونے سے اس مقاٹے کی اہمیت دوچند ہو گئی ہے۔

(۵) اسی طرح وہ حضرات علماء کرام جن کی رائے اس مسئلے میں کچھ اختلاف پہلو لیے ہوئے تھی، اس کو بطریق احسن فتاویٰ جات کی روشنی میں حل کیا گیا ہے۔

(۶) انداز انتہائی مرتب، مضبوط اور جامع ہے، طرز تحریر و پچسپ اور پر کشش ہے جس کی وجہ سے یہ قلیل اور مشکل موضوع بھی قاری کی توجہ یا آسانی حاصل کر لیتا ہے۔ بہر حال! یہ ایک عمدہ بلکہ عمدہ ترین کوشش و کاوش ہے جسے جتنا بھی سراہا جائے، کم ہے اور خصوصی طور پر اس کوشش کے پس منظر میں استاذ العلماء حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب مظلہ، استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ کی خصوصی توجہات اور مہربانیاں ہیں جنہوں نے مقالہ نگار کو انتخاب موضوع سے اختتام تحریر تک اپنے قیمتی ترین اوقات سے لمحات بابرکات عنایت فرمائے اور یوں یہ کام پا یہ تکمیل تک پہنچا اور پھر اکابرین علماء کرام کی تقریبات نے اس پر چار چاند لگادیے۔

اللہ تعالیٰ مقالہ نگار عزیزم میرے شاگرد رشید حافظ مولوی محمد ظفر سلمہ کو خوب خوب علمی و عملی ترقیات سے ملا مال فرمائے اور دینی موضوعات پر تحقیق و تفتیش کے اہم ترین کام کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے سرپرست و مہربان استاذ مکرم حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب مدظلہ کے ساتھ کوتادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے اور اسکے علمی فیض یاب فرمائے۔

اور بالخصوص ناشر محترم عزیزم مولانا محمد ناظم اشرف صدیقی صاحب مدظلہ کو خوب خوب جزاً خیر عطا فرمائے۔

آمین یا رب العلمین  
العبد الفقیر محمد کفیل عفی عنہ  
مدرس جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور

## عرض مؤلف

مہدی اور ظہور مہدی زمانہ جدید ہی میں نہیں، زمانہ قدیم سے ہی محل بحث و تحقیص اور موضوع کلام رہا ہے اور شروع ہی سے اس میں افراط و تفریط برتنی جاتی رہی ہے چنانچہ بعض لوگوں نے تو اسی کو اوزھنا پھوٹنا بنا کر انتظار مہدی ہی میں اپنی حیات عزیز اور متاع شیئں کو گنوادیا، کسی نے محض چند ضعیف حدیثوں کو دیکھ کر احادیث مہدی اور وجود و ظہور مہدی سے عہدہ برآئی کا اعلان کر دیا، متفقین میں اس فہرست کے اندر آپ کو ان خلدون کا نام نظر آئے گا اور متاخرین میں آپ کو دور جدید کے مجدع دین اور نام نہاد مفسرین میں جائیں گے جن پر مفصل تصریح آپ اسی کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

انہی لوگوں میں دوران مطالعہ قاضی سیلمان منصور پوری کا "صحت احادیث مہدی کا انکار" بہت عجیب لگا کیونکہ قاضی صاحب ماضی قریب ہی کی شخصیت ہیں اور ان سے پہلے حضرت تھانویؒ بڑی وضاحت کے ساتھ "مؤخرۃ الطعنون عن ابن خلدون" میں ابن خلدون کے اعتراضات کاٹھوں اور مدلل جواب دے چکے تھے۔

اس موقع پر یہ وضاحت بھی بے فائدہ نہ ہوگی کہ بعض لوگ امام ابوحنینؑ سے اظہار بعض کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، زیر بحث مسئلہ میں بھی انہوں نے کسی ختنی کا یہ قول ڈھونڈ نکالا کہ امام مہدیؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام ابوحنینؑ کی تقلید کریں گے، حاشا اللہ! کہ تحقیق سے اس کو دور کا بھی مس ہو، اصل بات یہ ہے کہ بعض

۱۔ قاضی صاحب نے اپنی مشہور کتاب "تاریخ الشاہیہ" ص ۱۸۸ پر ابن تومرت کے حالات لکھنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ قارئین ان حالات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ مہدی کے نام سے دنیا میں بالخصوص دنیاۓ اسلام میں کیا کچھ ہو چکا ہے، مجھے اس مقام پر اس تدرکھ دینا چاہیے کہ ظہور مہدی کے متعلق اگرچہ روایات بکثرت ہیں جن کا ثمار درجنوں پر ہے مگر اسی حدیث ایک بھی نہیں ہے جو محمد شین کے مسلم اصول تغییب کے مطابق صحیح مندرجہ کا درجہ رکھتی ہو۔ اعلم عند اللہ۔

بزرگوں کا "کشف" ہے کہ ان حضرات کا اجتہاد، امام صاحبؑ کے اجتہاد سے ملتا جلتا اور مشابہ ہوگا، اب مفترض نے یہ نہیں دیکھا کہ کشف جدت شرعیہ بھی ہے یا نہیں؟ مشبہ اور مشبہ بہ میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے یادوں کا مکمل طور پر متحدد ہونا ضروری ہے؟ اور اس پر اعتراض کی بنیاد کھڑی کر دی، حالانکہ نہ تو کشف ہی جدت شرعیہ ہے اور نہ ہی مشبہ و مشبہ بہ میں مکمل اتحاد ضروری ہے لہذا یہ اعتراض لغو اور بیکار ہے۔

الغرض! کچھ لوگ ظہور مہدی کے منکر ہو گئے اور کچھ لوگوں نے دعویٰ مہدویت کرنے میں بھی کوئی خوف محسوس نہیں کیا اور نہایت یہاں کی سے اپنے اس موقف پر ڈالنے رہے بلکہ ملا علی قاریؒ اور صاحب مظاہر حق کے مطابق تو بعض لوگوں نے اپنے گرد او باشوں کی ایک جماعت اکٹھی کر کے لوگوں سے زبردستی اپنے "مہدی" ہونے کو منوانے کی کوشش کی، جس کا انجام بالآخر ناکامی ہوا۔

اس کی مکمل تفصیلات تو قارئین کرام آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے  
یہاں اجمالی طور پر کتاب سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔  
(۱) اس کتاب میں امام مہدیؑ سے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کئے گئے ہیں اس لیے امید ہے کہ اس موضوع سے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد صحیحہ ہی قارئین کے ذہن میں جگہ پائیں گے۔

(۲) بعض وجوہات کی بناء پر کچھ باتیں منکر بھی ہو گئی ہیں لیکن چونکہ موقع کی مناسبت کا لحاظ بھی ضروری تھا اس لیے اس تکرار کو حذف نہیں کیا گیا۔ امید ہے کہ قارئین کرام اس سے مول نہ ہوں گے۔

(۳) پروف ریڈنگ میں اپنائی احتیاط برتنی گئی ہے تاہم اگر بتقااضائے بشریت مضمون یا پروف ریڈنگ کی کوئی غلطی قارئین کرام پائیں تو اس کو میرے اساتذہ کی طرف منسوب کرنے کی وجہے سے سیری کم علمی اور بے بنا کی پر محظوظ کر کے مطلع فرمائیں۔ انشاء اللہ اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں مجھے کوئی باک محسوس نہ ہوگا۔

ناپاسی ہو گی کہ اگر میں اپنے انہائی شفیق استاذ حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب مدظلہ کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے قدم قدم پر انگلی پکڑ پکڑ کر رہنمائی فرمائی، حق یہ ہے کہ اس کتاب کو انہی کی طرف منسوب کیا جائے، نیز اس موقع پر میں اپنے انہائی مشق سر پرست، مرتبی اور جان و دل سے زیادہ عزیز حضرت مولانا محمد گفیل خان صاحب دامت برکاتہم کے مشوروں اور ہدایات کو بھی فراموش نہ کر سکوں گا، تقریبات لکھنے والے اساتذہ و مشائخ بالخصوص، جامعہ اشرفیہ کے سب سے اولین مدرس، میرے محبوب استاذ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ”اطال اللہ عمرہ“ جن کو حضرت مولانا محمد اور میں کاندھلوی ”چلتا پھرتا کتب خانہ“ کہا کرتے تھے، کتاب کی نشر و طباعت کا اہتمام کرنے والے استاذ محترم مولانا محمد ناظم اشرف صاحب مدظلہ اور کسی طرح بھی تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شیان شان اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کے طفیل اس رو سیاہ کی بھی مغفرت فرمادے۔ آمین

محمد ظفر

۱۳۲۵ھ جمادی الاول

## ﴿مقدمہ﴾

جانشین شیخ موسیٰ، استاذ العلماء، استاذ الحدیث  
حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہم

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد!

دور حاضر میں عقائد و نظریات کے بدلتے ہوئے مختلف روحانیات میں سے ایک روحانی امام مہدیؒ اور ان کے ظہور سے متعلق بھی ہے۔ اسی مقصد کی خاطر مختلف ممالک میں مختلف دعوے روز بروز بلند ہوتے رہتے ہیں چنانچہ کہیں مسح موعود ہونے کا دعویٰ سنائی دیتا ہے اور کہیں مہدیؒ موعود ہونے کے دعوے کا نوں میں پڑتے ہیں۔ کہیں سے یہ شور بلند ہوتا ہے کہ ۲۰۰۳ء میں ظہور مہدیؒ ہو رہا ہے اور کہیں سے یہ نعرہ لگتا ہے کہ امام مہدیؒ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور و نزول کا وقت انتہائی قریب آگیا ہے۔ بس ایک دو سالوں میں ایسا ہونے والا ہے۔

بعض حضرات اپنی اپنی جماعت کے افراد کو امام مہدیؒ کے قبیں قرار دینے میں کوشش نظر آتے ہیں اور بعض حضرات ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے سر کردہ افراد یا قائدین پر امام مہدیؒ کی علامات چسپاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو رو جدید میں یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہر شخص اپنے مخاطبین کے سامنے کوئی ایسی نئی بات پیش کرنا چاہتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو،

اور اس سے اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ مخاطبین پر اس کا رعب بیٹھ جائے خواہ اس کو علم و دانش کی راہ سے کوئی مس ہو یا نہ ہو، اور وہ بات سمجھیدگی و وقار کے دائرے میں آتی ہو یا نہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس نئی بات اور نئے دعوے کو وہ پیش کر رہا ہے، نجات نہ دہ اس پر چپاں بھی ہوتا ہے یا نہیں؟

یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس میں ظہور مہدیؒ کے انکار کی روح کا فرمان نظر آتی ہے چنانچہ کبھی محدثانہ انداز سے جرح و تقدیم کے ذریعے ظہور مہدی کا انکار کیا جاتا ہے اور کبھی اس سلسلے کی احادیث کو ایرانی اور عجمی تخلیقات کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ کبھی یہ دعویٰ تراشا جاتا ہے کہ ظہور مہدی سے متعلق احادیث کو عربی تخلیقات اور قرآن کی صحیح اسپرٹ سے کوئی سروکار نہیں اور کبھی یہ کہہ کر ظہور مہدی کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں امام مہدیؒ اور ان کے ظہور کا کوئی تذکرہ نہیں، کبھی ظہور مہدی کے عقیدے کو اپنا نے پر اسے مصیبت قرار دیا جاتا ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدیؒ کے متعلق زور دار ثبوت بالکل نہیں ہے۔

اب را بیعقل پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ دونوں نظریے افراط و تفریط پر بنی ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے کسی بزرگ نے نہ تو اپنے لیے مہدویت کا دعویٰ کیا اور نہ ظہور مہدی کا انکار کیا بلکہ انہوں نے اس کو بعینہ اسی طرح تسلیم کیا جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے۔

اس رسالے کی وجہ ترتیب ایک تو یہی ہی کہ لوگ اس سلسلے میں بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہیں اور ان کو حق بات اور مستند معلومات تک رسائی حاصل نہیں۔ دسری وجہ اور محرك یہ بنا کہ دور جدید کی دینی مطالعاتی کتب میں امام مہدیؒ کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا تذکرہ مفقود ہوتا جا رہا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ دور حاضر کے فارغ التحصیل علماء بھی امام مہدیؒ کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے کہ وہ اپنے مخاطب کو مطمئن کر سکیں، کتب حدیث میں جہاں کہیں امام مہدیؒ کا تذکرہ آتا ہے اس کا سرسری طور پر مطالعہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہی لوگ بعد میں یا تو ظہور مہدی کے قطعی

مکر ہو جاتے ہیں یا اس موضوع کو اپنے ذہن میں بالکل جگہ نہیں دے پاتے۔ ان وجوہات اور حرکات کی بناء پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا تاکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور اکابر محدثین و علماء کے آقوال و آراء قارئین کرام کے سامنے پیش کر دیئے جائیں اور امام مہدیؑ کے بارے میں قرآن و سنت کی مستند معلومات اور اس بارے میں درست عقائد ہی ذہن میں جگہ پاسکیں۔

اس رسالے کو سات ابواب اور ایک خاتمه پر مرتب کیا گیا ہے جس کا اجمانی خاکہ یوں ہے:

باب اول .....	عقیدہ ظہور مہدیؑ
باب دوم .....	نام و نسب اور سیرت
باب سوم .....	علامات ظہور مہدیؑ
باب چہارم .....	ظہور مہدیؑ سے قبل کے واقعات
باب پنجم .....	ظہور مہدیؑ ترتیب زمانی کے ساتھ واقعات کے تناظر میں
باب ششم .....	امام مہدیؑ سے متعلق صحیحین کی روایات، ۳۷ صحابہؓ و صحابیاتؓ کی روایات
باب هفتم .....	منکرین و مدعاوین مہدویت
خاتمه .....	علماء کرام کے فتاویٰ

آخر میں عزیزم مولوی محمد ظفر سلمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ عزیزم موصوف نے احرقر کی گذارشات کے مطابق انتہائی جانشنازی، مسلسل جدوجہد، لگن اور محنت سے مواد کی جستجو کی، اسے جمع کیا اور عمدہ ترتیب کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

اللہ رب العزت موصوف کی عمر، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور کتاب کے ناشر مولانا محمد ناظم اشرف سلمہ کو بھی جزاۓ خیر عطا فرمائے۔

الفخر

محمد یوسف خان عنی عنہ

## باب اول

### عقیدہ ظہور مہدی رض

قرآنی آیات کا ظہور مہدی ع کی طرف اشارہ، تو اتر احادیث  
مہدی ع، امام اور رضی اللہ عنہ کا خطاب، اسماء صحابة مع حوالہ  
جات، علماء کرام کی آراء، اسماء کتب، امام مہدی ع افضل یا  
شیخین ع؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اس دنیا کی ایک ابتداء تھی اور ایک انتہاء ہے، ابتداء ہو چکی اور انتہاء قریب ہے جس کے لیے وقوع قیامت کو علامت قرار دیا گیا ہے اور ان علامات کی صراحت صحیح احادیث میں کثرت سے موجود ہے۔

نبیادی طور پر علامات قیامت کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے چنانچہ محمد تاج عبدالرحمٰن المروی اپنی کتاب ”عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنّة“ کے ص ۳۴۷ پر رقم طراز ہیں:

”علامات قیامت میں سے بعض علامات چھوٹی ہیں اور بعض بڑی۔ پھر چھوٹی علامات کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) وہ علامات جو واقع ہو چکی ہیں۔ (۲) وہ علامات جواب تک واقع نہیں ہوئیں۔ اول قسم میں وہ علامات بھی شامل ہیں جو کہ پوری ہو چکیں اور وہ بھی کہ جن کا ظہور یکدم نہیں ہوا بلکہ آہستہ آہستہ ہوا، اسی طرح وہ علامات بھی کہ جو مکر واقع ہوئیں اور وہ بھی جو مستقبل میں کثرت سے واقع ہوں گی۔“

پھر آگے انہوں نے ہر ایک کی تفصیلات مثالوں کے ذریعے پیش کی ہیں جن سے فی الحال یہاں بحث کرنا مقصود نہیں۔

علامات قیامت میں سے ایک علامت ”ظہور مہدی“ بھی ہے جس پر اس رسالے میں قدرے تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ انشاء اللہ العزیز۔

”ظہور مہدی“ سے متعلق عقیدے کی بحث سے پہلے اس موضوع سے متعلق قرآنی آیات کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

## ﴿وَهُآيَاتٌ جِنْ مِنْ أَمَامْ مَهْدِيٍّ كِي طَرْفِ اشَارَه مَوْجُودَه﴾

حضرت امام مہدیؑ کا ذکر قرآن کریم میں صراحةً تو نہیں البتہ ایک دو آیتوں میں ان کی طرف اشارہ ضرور پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں:

(۱) ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَطَعِ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا حَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَزْنٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (البقرة: آیت نمبر ۱۱۲)

اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر قرأتے ہیں:

﴿وَفَسَرَ هُؤُلَاءِ الْخَزْنَى فِي الدُّنْيَا بِخُروجِ الْمَهْدِيِّ عَنْ دَسْدِيِّ وَعَكْرَمَةِ وَوَائِلِ بْنِ دَاؤِدِ﴾ (تفیر ابن کثیر: ج ۱ ص ۲۰۸) اور ان لوگوں (یہودیوں اور عیسائیوں) کے لیے دنیا میں رسولی کی تفسیر، سدی، عکرمہ اور وائل بن داؤد کے نزدیک ”خروج مہدی“ سے کی گئی ہے۔

اگرچہ یہ تفسیری قول کہ دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کی اصل روائی خروج مہدی کے وقت ہو گی، سدی، عکرمہ اور وائل بن داؤد کا ہے لیکن چونکہ احادیث سے ثابت شدہ واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں اس لیے اس کو صحیح مان لینے میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں۔

(۲) اسی طرح علامہ ابن کثیرؓ نے آیت قرآنی

﴿وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ مِنْتَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعْنَانَ مِنْهُمْ أَنَّهُ عَشَرَ نَقِيَّاً﴾ (المائدہ: ۱۲)

کے تحت بارہ خلفاء والی روایت ذکر کی ہے کہ اس امت میں بارہ نیک و عادل

خلفاء ہوں گے اور یہ روایت منداحمد کے حوالے سے بدیں الفاظ منقول ہے۔

﴿عَنْ مُسْرُوقٍ قَالَ كَنَا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَقْرَئُنَا الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَاهُ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَهُلُّ سَالْتَمِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمْ يَمْلِكُ  
هَذِهِ الْأَمَّةِ مِنْ خَلِيفَةٍ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا سَالْتَنِي عَنْهَا أَحَدٌ  
مِنْذَ قَدْمَتِ الْعَرَاقَ قَبْلَكَ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ وَلَقَدْ سَالَنَا رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اثْنَا عَشَرَ كَعْدَةً نَبِيًّا بْنِ إِسْرَائِيلَ. هَذَا  
حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ ثَابِتٌ  
فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ امْرُ النَّاسِ  
مَاضِيًّا مَا وَلَيْهِمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ثُمَّ تَكَلَّمُ النَّبِيُّ ﷺ  
بِكُلِّمَةٍ خَفِيتُ عَلَى فَسَالْتُ إِيْ مَاذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ؟  
قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قَرِيْشٍ. وَهَذَا لِفْظُ مُسْلِمٍ وَمَعْنَى هَذَا  
الْحَدِيثِ الْبَشَارَةُ بِوُجُودِ اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً صَالِحًا يَقِيمُ  
الْحَقَّ وَيَعْدِلُ فِيهِمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا تَوَالِيَهُمْ وَتَتَابِعَ  
إِيَّاهُمْ بِلٍ وَقَدْ وَجَدْنَاهُمْ أَرْبَعَةً عَلَى نَسْقٍ وَهُمُ الْخَلِفَاءُ  
الْأَرْبَعَةُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعُثْمَانَ وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَمِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْلَاشْكُ عَنْدَ الْأَنْتَمَةِ وَبَعْضُ  
بْنِي الْعَبَّاسِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ وَلَا يَتَّهِمُ لَا  
مَحَالَةٌ وَالظَّاهِرُانَ مِنْهُمْ الْمَهْدَى الْمُبَشِّرُ بِهِ فِي  
الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِذَكْرِهِ فَذَكْرُهُ يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمَ  
النَّبِيِّ ﷺ وَاسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِيهِ فِيمَلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا  
وَقَسْطًا كَمَا ملئتْ جُورًا وَظُلْمًا﴾ (تَقْرِيرُ ابْنِ كَيْثَرٍ ج ۲ ص ۲۷)

”سروق کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو عبد الرحمن! کیا آپ لوگوں نے حضور ﷺ سے یہ پوچھا تھا کہ اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جب سے میں عراق آیا ہوں، تجھ سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا، پھر فرمایا کہ ہاں! ہم نے حضور ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس امت میں بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے برابر یعنی بارہ خلفاء ہوں گے، یہ حدیث اس سند سے تو ایک ہی راوی سے مردی ہے لیکن اس کی اصل بخاری و مسلم میں حضرت جابر بن سمرةؓ کی حدیث سے موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں کہ لوگوں کا یہ امر (دین) ثحیک ثحیک چلتا رہے گا جب تک کہ بارہ آدمی زمین میں حکمران (خلیفہ) نہ ہو جائیں، پھر حضور ﷺ نے آہستہ سے ایک بات کہی (جو میں سن نہ سکا) تو میں نے (پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے) پوچھا کہ حضور ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ بارہ کے بارہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ روایت کے یہ الفاظ امام مسلم نے نقل کیے ہیں:

اس حدیث کا مقصد بارہ صالح خلفاء کے وجود کی بشارت دینا ہے جو لوگوں میں حق اور انصاف کو قائم کریں گے لیکن اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بارہ خلفاء یکے بعد دیگرے لگاتار آئیں گے، بلکہ ان میں سے چار تو علی الترتیب خلفاء اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم ہی ہیں اور بااتفاق ائمہ عمر

بن عبد العزیزؒ بھی ان میں شامل ہیں، نیز بن عباس کے بعض خلفاء بھی ان میں سے ہیں اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ سب خلیفہ نہ ہو جائیں، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان بارہ خلفاء میں امام مهدیؑ بھی داخل ہیں جن کے متعلق احادیث میں بشارت آئی ہے چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ امام مهدیؑ کا نام، حضور ﷺ کے نام جیسا ہو گا اور ان کے والد کا نام، آپ ﷺ کے والد کے نام جیسا ہو گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔“

## ﴿ظہور مهدیؑ اہلسنت و الجماعت کا عقیدہ﴾

چونکہ حضرت امام مهدیؑ کا ظہور اہل سنت و الجماعت کے عقائد میں شامل ہے اس لیے اس پر عقائد کی روشنی میں بحث کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے چنانچہ اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اخیر زمانے میں امام مهدیؑ کا ظہور برحق اور صدق ہے اور ان کا ظہور اس قدر روایات سے ثابت ہے کہ جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے چنانچہ محمد شہیر مولانا محمد اور لیں کاندھلویؒ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح ”اعلیٰ علیٰ الصیح“ ج ۶ ص ۱۹۸ پر شرح عقیدہ سفارینیہ ج ۲ ص ۸۰ سے نقل کیا ہے۔

﴿قال السفارینی قد کثرت الروایات بخروج المهدی حتى بلغت حد التواتر المعنوی و شاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم فالایمان بخروج المهدی واجب كما هو مقرر عند اهل العلم ومدون في عقائد اهل السنة والجماعة﴾

”امام سفارینی نے فرمایا ہے کہ خروج مهدیؑ کی روایات اتنی کثرت

کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ تو اتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہیں اور یہ بات علماء اہل سنت کے درمیان اس درجے مشہور ہے کہ وہ ان کے عقائد میں شمار ہوتی ہے بس امام مهدیؑ کے ظہور پر حسب بیان علماء و عقائد اہل سنت والجماعت، ایمان لانا ضروری ہے۔“

اسی طرح بذل الحجہ و دلیل ابو داؤد میں حدیث ”لولحد یق من الدنیا ..... الخ“ کی شرح میں مرقوم ہے۔

﴿ حاصل معنی الحدیث ان بعثه مؤکد یقینی لا بدان یکون ﴾ (بذل الحجہ ج ۵ ص ۱۰۱)

”حدیث کا حاصل معنی یہ ہے کہ امام مهدیؑ کا بھیجا جانا مُؤکد اور یقینی بات ہے اور ایسا ہونا ضروری ہے۔“

نیز حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ اپنی کتاب ”عقائد الاسلام“ حصہ اول کے ص ۶۲ پر ”فائدہ جلیلہ“ کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔

”اہل سنت والجماعت کے عقائد میں ہے کہ امام مهدیؑ کا ظہور اخیر زمانے میں حق اور صدق ہے، اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ امام مهدیؑ کا ظہور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اگرچہ اس کی بعض تفصیلات اخبار آحاد سے ثابت ہیں، عہد صحابہ و تابعین سے لے کر اس وقت تک امام مهدیؑ کے ظہور کو مشرق و مغرب میں ہر طبقہ کے مسلمان علماء اور صلحاء عوام اور خواص ہر قرن اور ہر عصر میں نقل کرتے چلے آئے ہیں۔“

اسی طرح حضرت مولانا سید بدر عالم مہاجر مدینی نے بھی ترجمان النہج ج ۲ ص ۲۷۸ پر شرح عقیدہ سفاریہ کے حوالے سے ظہور مهدیؑ کی روایات پر تو اتر معنوی کا دعویٰ کیا ہے اور شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ نے بھی ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کی جلد اول میں ایک صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس پر قدرے تفصیلی

بحث فرمائی ہے اور ظہور مہدیؑ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شمار کیا ہے۔

## ﴿ظہور مہدیؑ کی قطعیت﴾

ظہور مہدیؑ اس قدر یقینی بات اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلے میں ملا علی قاریؒ نے مرقاۃ الفاتح ج ۱۰ ص ۲۷۸ پر مندا احمد اور ابو داؤد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿لولهم يق من الدهر الا يوم لبعث الله تعالى رجالا من  
اہل بيته يملأها عدلا كما ملئت جورا، ورواه ابن  
ماجة عن ابى هريرة مرفوعا لولهم يق من الدنيا الا يوم  
لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من اهل بيته  
يملك جبال الديلم والقسطنطينية﴾

(مرقاۃ الفاتح: ج ۱۰ ص ۲۷۸)

”اگر زمانے کا صرف ایک دن پچے (اور مہدیؑ نہ آئے، علامات قیامت پوری ہو جائیں) تب بھی اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بھیج کر رہیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ (اس سے پہلے) ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، اور ابین مجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن پچے (تب بھی ظہور مہدیؑ کے لیے) اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی دیلم اور قسطنطینیہ کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے۔“

## ﴿امام مہدیؑ کے لیے "رضی اللہ عنہ" کا خطاب﴾

اہل سنت والجماعت امام مہدیؑ کو نہ تو مامور من اللہ سمجھتے ہیں اور نہ ان کا درجہ انبیاء، کرام علیہم السلام کے برابر مانتے ہیں اور ہمارے یہاں جوان کو "امام" کہا جاتا ہے اس سے کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں چنانچہ شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ، امام مہدیؑ کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

"حضرت مہدی علیہ الرضوان کے لیے "رضی اللہ عنہ" کے پر شکوہ

الفاظ پہلی بار میں نے استعمال نہیں کیے بلکہ اگر آپ نے مکتوبات

امام ربانیؒ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ مکتوبات شریفہ

میں امام ربانیؒ سجد الف ثانیؒ نے حضرت مہدیؑ کو انہی الفاظ سے

یاد کیا ہے..... اخ -" (آپ کے سائل اور ان کا حل: ج اص ۲۷)

معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدیؑ کو "رضی اللہ عنہ" کہنا جائز ہے اور اگر صرف

اسی بات کو دیکھ لیا جائے کہ امام مہدیؑ، حضرت عیینی علیہ السلام کے صحابی ہوں گے تو ان

کے لیے "رضی اللہ عنہ" کا الفاظ استعمال کرنے پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا۔

## ﴿حضرت مہدیؑ کے لیے "امام" کا خطاب﴾

اسی طرح حضرت مہدیؑ کے لیے "امام" کا الفاظ استعمال کرنے میں بھی کوئی

قباحت نہیں چنانچہ حضرت لدھیانویؒ مذکورہ سائل ہی کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

"جناب کو حضرت مہدیؑ کے لیے "امام" کا الفاظ استعمال کرنے پر

بھی اعتراض ہے اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ "قرآن مقدس اور

حدیث مطہرہ سے امامت کا کوئی تصور نہیں ملتا" اگر اس سے مراد

ایک خاص گروہ کا نظریہ امامت ہے تو آپ کی یہ بات صحیح ہے مگر

جناب کو یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ میں نے بھی "امام" کا

لفظ اسی اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا ہوگا۔ کم سے کم امام مہدی کے ساتھ ”رضی اللہ عنہ“ کے الفاظ کا استعمال ہی اس امر کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ ”امام“ سے یہاں ایک خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں، ”آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱ ص ۲۲۲“

نیز حضرت لدھیانویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”امام مہدی علیہ الرضوان نبی نہیں ہوں گے اس لیے ان کا درجہ پیغمبروں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مہدیؑ کے زمانے میں نازل ہوں گے وہ بلاشبہ پہلے ہی سے اولوالعزم نبی ہیں،“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱ ص ۲۲۶)

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کے بارے میں اہل حق کا فتویٰ﴾

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں اہل حق کے اتفاقی قول کو نقل کرتے ہوئے حضرت لدھیانویؒ رقم طراز ہیں:

”حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نای محمد اور والد کا نام عبد اللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اسی طرح وہ شکل و شباءت اور اخلاق و شہادت میں آنحضرت ﷺ کے مشابہ ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفار سے خوزیر جنگیں ہوں گی۔ ان کے زمانے میں کانے دجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گھر جائیں

گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت وجال کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں پڑھیں گے، نماز کے بعد وجال کا رخ کریں گے، وہ عین بھاگ کھڑا ہو گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کر دیں گے، وجال کا شکر تھہ شیخ ہو گا اور یہودیت و نصرانیت کا ایک ایک نشان منادیا جائے گا۔  
یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آنحضرت ﷺ سے لے کر تمام سلف صالحین، صحابہ و تابعین اور ائمہ محدثین معتقد رہے ہیں۔“

(آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱ ص ۲۶۷)

## امام مہدیؑ سے متعلق روایات

### کے راوی صحابہؐ کرام علیہم الرضوانؑ

اس سے قبل آپ حضرات یہ پڑھ آئے ہیں کہ ظہور مہدیؑ کی روایات اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ ان پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں ان صحابہ کرامؐ کی فہرست مع حوالہ جات کے دی جا رہی ہے جنہوں نے امام مہدیؑ سے متعلق روایات نقل کی ہیں اور ان کی روایات آپ اسی کتاب کے باب ششم میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

نمبر شمار	نام صحابی	حوالہ جات
(۱)	حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ	كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۵۲
(۲)	حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ	كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۹۱، بحوالہ افراد للدارقطنی والتاریخ لابن عساکر۔

(۳)	حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسنند ابی یعلی ج ۱ ص ۳۵۹ المصنف لعبدالرزاق ج ۱۱ ص ۲۷۳، ابن داؤد ج ۲ ص ۳۰۸۰، ابن ماجہ ۲۳۹
(۴)	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ التذکرہ للقرطبی ص ۷۰۳
(۵)	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کتاب الفتن ص ۲۶۲، ترجمان السنۃ ج ۳ ص ۳۰۲، مسلم شریف ۷۲۳۲
(۶)	حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کتاب الفتن ص ۲۲۷، کتاب البرهان، ج ۲ ص ۷۰۷، مسلم شریف ۷۲۲، ابن ماجہ ۳۰۳۳
(۷)	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا الاشاعتہ لاشرات الماعة ص ۲۳۲، ترمذی ۲۱۸۲، ابن ماجہ ۳۰۴۲
(۸)	حضرت ام حبیب رضی اللہ عنہا کتاب البرهان، ج ۲ ص ۲۶۲
(۹)	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو داؤد، ج ۲ ص ۲۳۰، مشکوہ ص ۳۷۱، ترجمان السنۃ ج ۳ ص ۳۵، مسلم شریف ۷۲۳۰، ابن ماجہ ۳۰۶۰
(۱۰)	حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ترمذی ج ۲ ص ۳۶، ترجمان السنۃ ج ۳ ص ۳۸۳، الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۷۰، مسلم ۷۲۸۱، ابو داؤد ۳۲۸۲، ابن ماجہ ۳۰۸۲

<p>المصنف لعبدالرزاق ج ۱۱ ص ۳۷۱، ابو داؤد ج ۲ ص ۲۳۹، ترمذی ج ۲ ص ۳۶، ابن ماجہ ج ۲۰۸۳</p>	<p>حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۲)</p>
<p>ترمذی ج ۲ ص ۳۶، بخاری ۳۲۳۹. ۷۱۱۰ ۷۲۷۲. ۷۲۷۵</p>	<p>حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۳)</p>
<p>مشکوٰۃ ص ۳۷۱، ترجمان السنة ج ۳ ص ۳۸۱، ابن ماجہ ۲۰۸۲</p>	<p>حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۴)</p>
<p>كتاب البرهان ج ۲ ص ۷۳۸ ابن ماجہ ۲۰۸۸</p>	<p>حضرت عبد اللہ بن المارث رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۵)</p>
<p>كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۶۷، ابن ماجہ ۲۰۸۷</p>	<p>حضرت انس رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۶)</p>
<p>الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۷۵</p>	<p>حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۷)</p>
<p>ترجمان السنة ج ۳ ص ۳۹۹ الاشاعة لشروط الساعة ص ۲۲۳</p>	<p>حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۸)</p>
<p>كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۸۲</p>	<p>حضرت ابوامام رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۹)</p>
<p>كتاب الفتن ص ۲۳۸</p>	<p>حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما</p>	<p>(۲۰)</p>
<p>كتاب الفتن ص ۲۳۶، كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۲۱</p>	<p>حضرت عمار رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۲۱)</p>

حضرت عباس رضی اللہ عنہ	حضرت عباس رضی اللہ عنہ	(۲۲)
آثار القيامه فى حجج الكرامه ص ۳۵۶، الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۹۷		
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما	حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما	(۲۳)
كتاب الفتن ص ۲۲۳، كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۱۳، ص ۷۳۱		
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ	حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ	(۲۴)
كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۳۶		
حضرت حسین رضی اللہ عنہ	حضرت حسین رضی اللہ عنہ	(۲۵)
كتاب البرهان ج ۲ ص ۴۵۲		
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ	حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ	(۲۶)
كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۱۰		
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ	حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ	(۲۷)
كتاب البرهان ج ۲ ص ۲۶۷		
حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ	حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ	(۲۸)
كتاب الفتن ص ۳۶۰		
حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ	حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ	(۲۹)
كتاب البرهان ج ۲ ص ۲۶۰		
حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ	حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ	(۳۰)
كتاب البرهان ج ۲ ص ۱۱۱		
ترجمان السنۃ ج ۲ ص ۳۹۶		
ابوداؤد ۲۲۹۲		
حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما	حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما	(۳۱)
كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۲۳		
كتاب الفتن ص ۲۳۷		
حضرت قرۃ العین رضی اللہ عنہما	حضرت قرۃ العین رضی اللہ عنہما	(۳۲)
الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۷۳		
حضرت قیس بن جابر رضی اللہ عنہما	حضرت قیس بن جابر رضی اللہ عنہما	(۳۳)
الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۹۵		

الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۱۰۲ ، ابو داؤد ۷۹۷۶ ، ۳۲۸۱ ترمذی ۲۲۲۳	حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ	(۳۴)
کتاب الفتن ص ۱۹۰ ،	حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ	(۳۵)
مسلم شریف ۷۲۷۲	حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ	(۳۶)
ابو داؤد ۳۲۹۲	حضرت ذی مخیر رضی اللہ عنہ	(۳۷)

## ﴿علماء کرام کی احادیث مہدیؑ کی بابت آراء﴾

احادیث مہدیؑ کے راوی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اجمالی فہرست آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اب آپ احادیث مہدیؑ کی بابت علماء کرام کی آراء بھی ملاحظہ فرمائیں:

شیخ یوسف بن عبد اللہ الوابل اپنی کتاب ”اشراط الساعة“ کے ص ۲۵۹ پر ”تو اتر احادیث المهدی“ کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ ”میں نے امام مہدیؑ کے سلسلے کی جو روایات ذکر کی ہیں (اور ان سے زیادہ وہ روایات جو میں نے بخوبی طوالت چھوڑ دی ہیں) وہ تو اتر معنوی کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جیسا کہ علماء نے اس کی تصریح کی ہے، ان میں سے چند علماء کے اقوال میں یہاں بھی ذکر کرنا ہوں۔

### (۱) حافظ ابو الحسن آبریؓ کی رائے:

”امام مہدیؑ کے تذکرہ سے متعلق احادیث بڑی شہرت کے ساتھ حضور ﷺ سے تو اتر منقول ہیں، نیز یہ کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہوں گے، سات سال تک حکومت کریں گے۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت عیینی علیہ السلام نازل ہوں گے تو امام مہدیؑ دجال کے قتل کے سلسلے میں ان کی مدد کریں گے اور یہ کہ وہ اس امت کے امام ہوں گے اور حضرت عیینی علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے۔“

### (۲) سید محمد برزنجیؓ کی وضاحت:

”تیسرا باب ان بڑی اور قریبی علامات کے بیان میں ہے جن کے بعد قیامت آجائے گی اور یہ علامات بہت زیادہ ہیں۔ مجملہ ان

کے ایک امام مہدیؑ کا ظہور ہے جو کہ قیامت کی پہلی بڑی علامت ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس سلسلے میں مختلف روایات اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔“ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ”یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ امام مہدیؑ کے وجود اور آخر زمانے میں ان کے ظہور اور حضور ﷺ کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہونے کی احادیث تو اتر معنوی کی پہنچی ہوئی ہیں لہذا ان کا انکار کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔“

### (۳) علامہ سفاریؒ کا بیان:

”امام مہدیؑ کے ظہور کی روایات کثرت سے وارد ہوئی ہیں حتیٰ کہ وہ تو اتر معنوی کی حد کو پہنچ چکی ہیں اور یہ بات علماء اہل سنت والجماعت کے درمیان مشہور اور ان کے عقائد میں سے ہے۔ اس کے بعد علامہ سفاریؒ نے ظہور مہدیؑ سے متعلق احادیث و آثار اور ان کے راوی صحابہؓ کے نام ذکر کیے ہیں اور فرمایا کہ مذکورہ اور غیر مذکور صحابہ اور متعدد تابعین سے اس سلسلے کی اتنی روایات متعددہ مروی ہیں کہ وہ سب مل کر علم قطعی کا فائدہ دیتی ہیں لہذا امام مہدیؑ کے ظہور پر ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ یہ بات اہل علم کے یہاں ثابت شدہ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں داخل ہے۔“

### (۴) قاضی شوکانیؒ کی تحقیق:

”امام مہدیؑ کی آمد کے بارے میں جن روایت پر با آسانی مطلع ہونا ممکن ہے۔ وہ پچاس احادیث ہیں جن میں سے کچھ صحیح، کچھ حسن اور کچھ ایسی ضعیف ہیں کہ ان کے ضعف کی تلاشی ہو جاتی

ہے۔ لیکن ان روایات سے جو مجموعی بات حاصل ہوتی ہے وہ متواتر ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیونکہ اصول حدیث کی اصطلاح کے مطابق اگر کسی سلسلے میں پچاس سے کم روایات مروی ہوں تو اس سے تو اتر حاصل ہو جاتا ہے، باقی رہے صحابہ کرامؐ کے وہ ارشادات جن میں امام مہدیؐ کے نام کی صراحة آتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں اور ان کا حکم بھی وہی ہے جو مرفع روایت کا ہوتا ہے اس لیے کہ اس قسم کے واقعات کے بارے میں اجتہاد کی بنیاد پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا جاسکتا۔“

### (۵) نواب صدیق حسن خانؒ کی رائے:

”امام مہدیؐ کے بارے میں مختلف روایات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں جو تو اتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ روایات اسلامی کتب کے مجموعہ جات مثلاً سنن، معاجم اور مسانید وغیرہ میں موجود ہیں۔“

### (۶) شیخ جعفر کتابیؑ کا حوالہ:

”خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہدیؐ منتظر کے بارے میں احادیث متواترہ موجود ہیں، اسی طرح خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی متواتر احادیث موجود ہیں۔“ (یہ تمام اقوال کتاب

”اشراط السالۃ“ ص ۲۵۹ ص ۲۶۲ سے مخذل ہیں)

### (۷) حافظ ابو جعفر عقیلؑ کی وضاحت:

حافظ ابو جعفر عقیلؑ اپنی کتاب ”کتاب الضعفاء“ میں علی بن نفیل نہدیؑ کے حالات زندگی تحریر فرماتے ہوئے امام مہدیؐ سے متعلق اس کی روایت کردہ ایک حدیث

کے تحت فرماتے ہیں کہ:

”امام مہدیؑ کے بارے میں اس حدیث کے لیے اس کا کوئی متابع موجود نہیں اور نہ ہی یہ حدیث اس کے علاوہ کسی اور سے مشہور ہے البتہ اس سند کے علاوہ امام مہدیؑ کے بارے میں بہت سی جید احادیث وارد ہیں۔“

اسی طرح زیاد بن بیان الرقی کی سوانح حیات لکھتے ہوئے بھی کہا ہے کہ: ”امام مہدیؑ کے بارے میں بہت سی صحیح سند والی روایات موجود ہیں۔“

#### (۸) علامہ ابن حبانؓ کی تحقیق:

امام ابو حاتم ابن حبانؓ ابستی نے اپنی صحیح میں متعدد ابواب امام مہدیؑ سے متعلق ذکر کر کے ان سے استدلال کیا ہے جس سے ان کے نزدیک بھی ان روایات کا صحیح اور قابل استدلال ہونا معلوم ہوتا ہے۔

#### (۹) امام ابو سلیمان خطابیؓ کا بیان:

امام ابو سلیمانی خطابیؓ، حضرت انس بن مالکؓ کی اس حدیث:

﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالجُمُعَةِ﴾ (الحدیث)

پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”سال کا مینیہ کے برابر اور مینیہ کا جمعہ کے برابر ہونا امام مہدیؑ کے زمانے میں ہو گا یا حضرت علیؓ علیہ السلام کے زمانے میں یا پھر دونوں کے زمانے میں ہو گا۔“

## (۱۰) امام زین العابدینؑ کی رائے:

امام زین العابدینؑ احادیث مہدیؑ پر یوں تبصرہ نگاری فرماتے ہیں:  
 ”امام مہدیؑ کے ظہور سے متعلق وضاحت احادیث میں یقینی طور پر  
 صحت کے ساتھ ثابت ہے اور یہ صحت سند کے اعتبار سے بھی ہے،  
 نیز ان احادیث میں یہ بھی بیان ہے کہ امام مہدیؑ حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے۔“ (کتاب البرہان: ج ۱ ص ۳۳۲۶۳۳۰)

یہ چند علماء کرام کے اقوال آپ کے سامنے مشتمل اذنمونہ خروارے کے طور پر  
 پیش کیے گئے ہیں اور ابھی اس سے زیادہ پیش کیے جاسکتے ہیں لیکن بخوب طوالت انہیں  
 ترک کیا جاتا ہے۔

اب یہاں امام مہدیؑ کے بارے میں تصنیف شدہ کتابوں کی اجمالی فہرست  
 بھی ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

## ﴿وہ کتابیں جن میں ضمناً امام مہدیؑ کا تذکرہ آیا ہے﴾

(۱) المصنف عبد الرزاق	اس میں گیارہ احادیث مہدی ہیں۔
(۲) كتاب الفتن	یہ سب سے زیادہ قدیم اور وسیع مأخذ ہے جس میں احادیث مہدیؑ کثرت سے موجود ہیں۔
(۳) الجامع للترمذی	اس میں تین احادیث مروی ہیں۔
(۴) المصنف لابن ابی شیبة	اس میں سولہ روایات ہیں۔
(۵) سنن ابن ماجہ	اس میں سات احادیث مروی ہیں۔
(۶) سنن ابی داؤد	اس میں تیرہ احادیث مروی ہیں۔

جبکہ بخاری اور مسلم میں امام مہدی کا نام لیے بغیر پچھا احادیث ذکر کی گئی ہیں  
 جس کی تفصیل قارئین آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

## ﴿امام مہدیؑ کے بارے میں مستقل تصانیف﴾

نمبر شمار	مصنف کا نام	کتاب کا نام
(۱)	ابن ابی خثیفہ بن زہیر بن حربؓ	بقول سیمیلی کے انہوں نے اس موضوع کی احادیث کو جمع کیا تھا۔
(۲)	ابو الحسین احمد بن جعفر بن المناوی	علامہ ابن حجرؓ نے ان کے رسائلے کا ذکر کیا ہے۔
(۳)	ابو فیض احمد بن عبد اللہ سیوطی	ابن قیم نے ان کی کتاب کا نام "كتاب المهدی" اور "اصبهانی" نے "اربعین" ذکر کیا ہے۔
(۴)	یوسف بن یحییٰ الصلحی الشافعی	عقد الدر فی اخبار المهدی المنتظر.
(۵)	امام ابن کثیر	الفتن والملاحم میں انہوں نے اپنے رسائلے کا تذکرہ کیا ہے۔
(۶)	علامہ سیوطیؓ	بقول عجلونی کے اس کتاب کا نام "ارتقاء العرف" ہے۔
(۷)	علامہ سیوطیؓ	العرف الوردي فی اخبار المهدی.
(۸)	ابن کمال پاشا حنفیؓ	تلخیص البيان فی علامات مهدی آخر الزمان.
(۹)	محمد بن طولون الدمشقیؓ	المهدی الى ماورد فی المهدی
(۱۰)	ابن حجر یتمیؓ	القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر.

(۱۱)	شیخ علی مقی ہندیؒ	كتاب البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان.
(۱۲)	ملا علی قاریؒ	المشرب الوردى فى مذهب المهدى.
(۱۳)	ابن بريدة	بقول ابن مناوى کے اس رسالے کا نام "العواصم من الفتن القواسم" ہے۔
(۱۴)	مرعى بن يوسف الكرمى	فوائد الفكر فى الامام المهدى المنتظر.
(۱۵)	محمد بن اسماعيل الامير	ان کی کتاب کا ذکر نواب صدیق حسن خان نے کیا ہے۔
(۱۶)	قاضی شوکانی	التوضیح فی توادر ماجاء فی المهدی المنتظر والدجال والمسیح
(۱۷)	شهاب الدین طوانی	القطر الشھدی فی او صاف المهدی.
(۱۸)	محمد بن محمد البیسی	انہوں نے امام طوانی کی نکورہ کتاب کی شرح بنام "العطیر الوردى" لکھی۔
(۱۹)	ابوالعلاء ادریس العراقی	بقول کتابی کے ان کا بھی امام مهدیؒ کے بارے میں ایک رسالہ ہے۔
(۲۰)	شیخ مصطفیٰ بکری	الھدایۃ الندیۃ للامة المھدیۃ فيما جاء فی فضل الذات المھدیۃ.
(۲۱)	محمد بن عبد العزیز مانع	تحذیق النظر فی اخبار الامام المنتظر.
(۲۲)	رشید راشد الحلبی	تؤیر الرجال فی ظہور المهدی و الدجال.
(۲۳)	احمد بن محمد بن صدیق	المرشد المبدی لفساد طعن ابن خلدون فی احادیث المهدی.

<p>الرد على من كذب بالاحاديث الصحيحة الواردة في المهدى.</p>	<p>عبد الحسن العباد</p>	<p>(٢٢)</p>
<p>الاحاديث الواردة في المهدى في ميزان الجرح والتعديل.</p>	<p>شيخ عبدالعزيز عبدالعظيم</p>	<p>(٢٥)</p>
<p>النجم الثاقب في بيان ان المهدى من اولاد علي بن ابي طالب.</p>	<p>.....</p>	<p>(٢٦)</p>
<p>رسالة في المهدى (ملخصا از كتاب البرهان ج ١ ص ٣٣٧ تا ص ٣٥٨)</p>	<p>.....</p>	<p>(٢٧)</p>
<p>مولانا اشرف علی تھانویؒ مؤخرة الظنون عن ابن خلدون و غيره.</p>	<p>مولانا اشرف علی تھانویؒ</p>	<p>(٢٨)</p>

## ﴿امام مہدیؑ افضل یا شیخین؟﴾

حضرت امام مہدیؑ کے متعلق علامہ ابن سیرینؓ کے اس قول کی حقیقت بھی معلوم کر لینا ضروری ہے جس میں انہوں نے حضرت امام مہدیؑ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر فضیلت دی ہے چنانچہ نعیم بن حمادؓ ان کے اس قول کو اس طرح نقل کرتے ہیں:

﴿عَنْ أَبْنَى سِيرِينَ قِيلَ لِهِ الْمَهْدِيُّ خَيْرٌ وَأَبُوبَكْرٌ وَعُمَرٌ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؟ قَالَ هُوَ أَخْيَرُهُمَا وَيَعْدُلُ بَنْبَى﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۵۰)

”علامہ ابن سیرینؓ سے پوچھا گیا کہ امام مہدیؑ زیادہ بہتر ہیں یا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما؟ تو ابن سیرین نے کہا کہ امام مہدیؑ ان دونوں سے زیادہ بہتر ہیں اور نبیؐ کے برابر ہیں“

اس قسم کی دو روایتیں علامہ سیوطیؓ نے بھی الماوی للغتاوی ج ۲ ص ۹۲ پر نقل فرمائی ہیں جن میں سے ایک روایت تو ضرہ کی سند سے ابن سیرین سے یوں منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاجْلِسُوا فِي بَيْوَتِكُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا عَلَى

النَّاسِ بِخَيْرٍ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قِيلَ أَفْيَاتِي خَيْرٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ

وَعُمَرَ؟ قَدْ كَانَ يَفْضُلُ عَلَى بَعْضٍ﴾ (الماوی للغتاوی: ج ۲ ص ۲۹)

”جب فتنوں کا زمانہ آجائے تو تم اپنے گروں میں بیٹھ جانا یہاں تک کہ تم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ بہتر آدمی کے آنے کی خبر کا سن لو (پھر باہر نکلا) لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بھی افضل کوئی شخص آئے گا؟ فرمایا کہ وہ تو بعض انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوگا۔“

اس روایت کے الفاظ میں کچھ کی معلوم ہوتی ہے، غالباً کتابت کی غلطی ہے کیونکہ ”افیاتی خیر من ابی بکر و عمر؟“ کے بعد ”قال“ کالفظ ہونا چاہیے جو ابن سیرین کے جواب پر دلالت کرے، پھر ”قد کان“ میں زیادہ صحیح ”قد کاد“ معلوم ہوتا ہے کیونکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”القول المختصر فی علامات المهدی المفترض“ ص ۱۷ پر ”کاد“ کا لفظ ہی تحریر فرماتے ہیں اسی طرح لفظ ”بعض“ کے بعد ”الانیاء“ کا لفظ بھی ہونا چاہیے جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ صدر کتاب میں یہ لفظ موجود ہے۔ علامہ سیوطی نے دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کی ہے جس میں ابن سیرین کا قول یوں نقل کیا گیا ہے:

﴿یکون فی هذه الامة خلیفہ لا يفضل عليه ابوبکر ولا  
عمر﴾ (المادی: ج ۹۲ ص ۲)

”اس امت میں ایک خلیفہ ہوگا جس پر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی فضیلت نہ ہوگی۔“

اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اولاً تو علامہ ابن سیرین کا اپنا قول ہے، کتب حدیث و اشراط سامنے میں علامہ ابن سیرین (اور غالباً ایک اور بزرگ) کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا قول منقول نہیں۔ ثانیاً یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے ایک راوی یحییٰ بن الیمان کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے مالاً یہ کہ اگر اس قول کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس میں ایسی تاویل کی جائے گی جس سے علامہ ابن سیرین کا قول بھی درست ہو جائے اور صحیح احادیث کے ساتھ تعارض بھی نہ آئے چنانچہ مختلف علماء کرام نے اس قول کی مختلف توجیہات ذکر کی ہیں۔

### ﴿علامہ سیوطی کا جواب﴾

علامہ سیوطی نے مذکورہ صدر دونوں روایتوں کو نقل کر کے اپنا تبصرہ یوں تحریر فرمایا

”میرے نزدیک ان دونوں حدیثوں کی وہی تاویل کی جائے گی جو اس حدیث کی کی جاتی ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرامؐ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آخری زمانے میں نیک عمل کرنے والے کے لیے تم میں سے پچاس کے برابر اجر و ثواب ہو گا۔ یعنی فتنوں کی شدت اور کثرت کی وجہ سے پچاس کے برابر اجر ملے گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اخیر زمانے کے مسلمان، صحابہ کرامؐ سے بڑھ جائیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اسی طرح امام مہدیؑ کو شیخینؐ سے افضل قرار دینا اس وجہ سے ہے کہ امام مہدیؑ کے زمانے میں فتنوں کی شدت ہو گی چنانچہ ایک طرف توروی حملہ آور ہونے کے لیے پرتوں رہے ہوں گے اور دوسری طرف دجال ان کا محاصرہ کیے ہو گا، اس سے وہ فضیلت ہرگز مراد نہیں جو زیادہ ثواب اور بلندی درجہ کی طرف لوٹی ہے اس لیے کہ صحیح احادیث اور اجماع اس بات پر دال ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، انبیاء و مرسیین کے بعد پوری مخلوق سے افضل ہیں۔

(الحاوی للغزاوی: ج ۲ ص ۹۳)

### ﴿علامہ ابن حجر یتیمی کی صحیح کا جواب﴾

علامہ سیوطیؓ کے اس جواب کو علامہ ابن حجر یتیمیؓ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور آخر میں تحریر فرمایا ہے:

”امام مہدیؑ کی افضليت اور ثواب کا اضافہ ایک امر نئی ہے اس لیے کہ بھی کبھار مفضول میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو افضل میں نہیں ہوتیں اسی وجہ سے تو طاؤس نے امام مہدیؑ کا زمانہ پانے کی تمنا کی ہے اس لیے کہ امام مہدیؑ کے زمانے میں نیک کام

کرنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا اور گناہ گار کو توبہ کی توفیق ہو گی۔..... اخْرُجَ، (القول المختصر فی علامات المهدی المختار ص: ۱۷)

### علامہ سید محمد بزرنجی کا جواب

سید بزرنجی، علامہ سیوطی کی تحقیق نقل کرنے کے بعد اپنی تحقیق یوں رقم فرماتے

ہیں:

”تحقیقی بات یہ ہے کہ باہمی فضیلت کی جهات مختلف ہو سکتی ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم کسی ایک فرد کو مطلق فضیلت دیں ہاں! اگر حضور ﷺ کسی کو کلی فضیلت دے دیں تو اور بات ہے ورنہ درست نہیں، کیونکہ ہر مفضول میں کسی نہ کسی جہت سے کوئی اسکی اضافی چیز پائی جاتی ہے جو افضل میں نہیں ہوتی..... اخْرُجَ (الاشاعر: ص: ۲۳۸)

علوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اگرچہ صحبت نبوی، مشاہدہ و حج اور سبقت اسلام کی وجہ سے امام مهدی پر فضیلت حاصل ہے اور امام مهدی ان سے کم درجے کے ہیں لیکن کچھ مخصوص صفات ان میں بھی ہیں جو شیخین میں نہیں اس لیے علامہ ابن سیرین نے انہیں شیخین سے بہتر قرار دیا ہے۔

ملا علی قاری نے اپنی کتاب ”المشرب الوردي في مدحهب المهدى“ میں تحریر فرمایا

ہے کہ:

”امام مهدی کی افضليت پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور ﷺ نے ان کو ”خلیفۃ اللہ“ فرمایا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ ”خلیفۃ رسول اللہ“ کہا جاتا ہے۔“

(الاشاعر: ص: ۲۳۸)

یہ بات تو آپ کے علم میں ہو گی کہ اگر کسی کو کسی پر کوئی جزوی فضیلت حاصل ہو

جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس پر کامل فضیلت پالے گا ورنہ دنیا میں کوئی افضل، افضل نہیں رہے گا اور کوئی مفضول، مفضول نہیں رہے گا۔

رہا علامہ ابن سیرین کا یہ کہنا کہ ”مہدی تو بعض انبیاء کے درجے کے قریب پہنچنے والے تھے۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے اور یہ امام ہوں گے اور امام، مقتدی سے افضل ہوتا ہے اس لیے امام مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ جزوی فضیلت حاصل ہو گئی لیکن یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں کیونکہ حضور ﷺ نے بھی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے تو کیا اس وجہ سے حضرت ابو بکر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے افضل ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ قول کسی نے اختیار نہیں کیا اسی طرح امام مہدی کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلی فضیلت حاصل نہیں ہے۔

## باب دوم

# حضرت امام مہدیؑ کا نام و نسب

محمد بن عبد اللہ، حسنی یا حسینی، حضرت عباسؑ کی اولاد میں سے؟ لقب  
اور کنیت، جائے پیدائش، سیرت اور حلیہ مبارکہ

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کا نام و نسب﴾

حضرت امام مہدیؑ کا نام:

حضرت امام مہدیؑ کے نام و نسب کے سلسلے میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا نام حضور ﷺ کے نام کے مشابہ ہو گا اور ان کے والد کا نام حضور ﷺ کے والد کے نام جیسا ہو گا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿المهدی یواطئ اسمه اسمی، واسم ابیه اسرابی﴾

(کتاب المتن: ص ۲۶۰)

”مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہو گا اور ان کے والد کا نام  
میرے والد کے نام کے جیسا ہو گا۔“

اسی طرح مکلوة شریف میں ترمذی اور ابو داؤد کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی

گئی ہے:

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لَا تَذَهَّبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلُكَ الْعَرَبُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي رَوَاهٌ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو داؤُد﴾

(مکلوة المصانع: ص ۲۷۰)

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو گی جب تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص، جس کا نام میرے نام کے موافق ہو گا، پورے عرب کا مالک نہ ہو جائے۔“

اس روایت میں صرف اتنا ذکر ہے کہ حضرت امام مہدیؑ کا نام حضور ﷺ

کے نام جیسا ہوگا، ان کے والد گرامی کے نام کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

﴿لَوْلَمْ يَقِنَ الْدُّنْيَا إِلَّا يَوْمَ لَطُولُ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمُ  
حَتَّىٰ يَعْثُرَ اللَّهُ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَوْاطِئُ  
اسْمِهِ اسْمِي وَاسْمِ ابِيهِ اسْمِ ابِي يَمْلأُ الْأَرْضَ قُسْطًا وَ  
عَدْلًا كَمَا ملئتُ ظُلْمًا وَجُورًا﴾ (مکملۃ المصالح: ص ۳۷۰)

”اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رفیع جائے (اور مہدیؑ نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو اتنا ملبہ کر دیں گے کہ اس میں مجھ سے یا (فرمایا کہ) میرے گھروالوں میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔“

اسی طرح امام قرطبیؓ نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت نقل کی ہے۔

﴿ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِلَا يَا تَصِيبَ هَذِهِ الْأَمَةَ حَتَّىٰ لَا  
يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَا إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَعْثُرَ اللَّهُ رَجُلًا  
مِنْ عَتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَيَمْلأُهُ الْأَرْضَ قُسْطًا وَعَدْلًا كَمَا  
ملئتُ جُورًا وَظُلْمًا﴾ (الذکرہ: ص ۷۰۰)

نیز امام قرطبیؓ ہی نے امام ترمذیؓ کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی یہ روایت بھی نقل کی ہے:

﴿لَوْلَمْ يَقِنَ الْدُّنْيَا الْيَوْمُ. قَالَ زَيْنَدَةُ فِي حَدِيثِهِ لَطُولُ اللَّهِ  
ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّىٰ يَعْثُرَ فِيهِ رَجُلًا مِنْ أَمْتَى أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَوْاطِئُ  
اسْمِهِ اسْمِي وَاسْمِ ابِيهِ اسْمِ ابِي. خَرْجَهُ التَّرْمذِيُّ  
بِمَعْنَاهُ وَقَالَ حَدِيثُ حَسْنٍ صَحِيحٍ﴾ (الذکرہ: ص ۷۰۰)

اسی سلسلے کی ایک اور روایت مالا علی قاریؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بحوالہ ابن ماجہ مرفوٰ نقل کی ہے۔

﴿لوله يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يملک رجل من اهل بيته يملك جبال الدبلم والقسطنطينية﴾ (مرقاۃ المفاتیح: ج ۱۰ ص ۱۷۲)

”اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی نہیں جائے (اور مہدیؑ نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ میرے گھروالوں میں سے ایک آدمی دبیم اور قسطنطینیہ کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے۔“

ان مذکورہ روایات پر ایک طالب علمانہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ان تمام احادیث میں ”رجل“ یا ”رجال“ کا لفظ ہے جو کہ نکره ہے، کسی معین شخص پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا پھر اس سے امام مہدیؑ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حضرت مولانا سید محمد بدرا عالم مہاجر مدینیؒ کی زبانی ملاحظہ ہو، حضرتؒ نے صحیح مسلم کے حوالے سے امام مہدیؑ کی صفات ذکر کرنے کے بعد تجزیہ کے طور پر تحریر فرمایا ہے کہ:

”یہ تمام صفات ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں محدثین کو کوئی کلام نہیں۔ اب گفتگو ہے تو صرف اتنی بات میں ہے کہ یہ خلیفہ کیا امام مہدیؑ ہیں یا کوئی اور دوسرا خلیفہ؟ دوسرے نمبر کی حدیثوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ خلیفہ امام مہدیؑ ہوں گے، ہمارے نزدیک صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس خلیفہ کا تذکرہ آچکا ہے تو پھر دوسرے نمبر کی حدیثوں میں جب وہی تفصیلات اس کے نام کے ساتھ مذکور ہیں تو ان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ امام

مہدی کا ثبوت خود صحیح مسلم میں موجود ہے تو اس کی صحیحگائش ہے۔“

(ترجمان السنہ: ج ۳۷ ص ۳۸)

بہر حال! نکورہ بالا روایات سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدیؑ کا نام، حضور ﷺ کے نام کی طرح ”محمد“ ہو گا اور ان کے والد کا نام حضور ﷺ کے والد کے نام کی طرح ”عبداللہ“ ہو گا البتہ ان کی والدہ کے نام کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملی، علامہ سید زنجیؒ نے بھی اپنی کتاب ”الاشاعتہ لاشراط الساحتہ“ میں یہی تحریر فرمایا ہے کہ ”تلash کے باوجود مجھے آپ کی والدہ کا نام روایات میں کہیں نہیں ملا۔“ (الاشاعت: ص ۲۰۵)

لیکن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ اور مولانا بدر عالمؒ نے بھی بحوالہ شاہ رفع الدینؒ کے امام مہدیؒ کی والدہ کا نام ”آمنہ“ تحریر فرمایا ہے چنانچہ حضرت کاندھلویؒ نے ”ظہور مہدی“ کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا ہے۔

”اس کا نام محمد اور اس کے باپ کا نام عبد اللہ اور ماں کا نام آمنہ ہو گا۔“ (عقائد الاسلام اول: ص ۶۲)

اور حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبد اللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہو گا۔“ (ترجمان السنہ: ج ۳۷ ص ۳۸)

اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام ”محمد بن عبد اللہ“ حدیث میں وارد نہیں بلکہ حدیث میں فقط اتنا ہے کہ ان کا نام حضور ﷺ کے نام کے مشابہ ہو گا اور ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کے دو نام قرآن کریم میں صراحت بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) محمد ..... پورے قرآن میں چار مرتبہ استعمال ہوا۔

(۲) احمد ..... پورے قرآن میں ایک مرتبہ استعمال ہوا۔

اس لیے اب یہ کہا جائے گا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد بن عبد اللہ ہو گایا احمد بن عبد اللہ۔

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کا نسب﴾

حضرت محمد بن عبد اللہ المہدیؑ جو کہ نام اور کام دونوں میں حضور ﷺ کے مشابہوں گے، جیسا کہ آئندہ تفصیل سے یہ بات آپ کے سامنے آئے گی، حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اولاد بھی اس کی جس کو ”سیدۃ نساء الہال الجنة“ کا خطاب دیا گیا ہے چنانچہ نعیم بن حماد نے قادہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن الحسینؑ سے پوچھا۔

قادہ: کیا امام مہدیؑ کا ظہور برحق ہے؟

سعید: ہاں! برحق ہے!

قادہ: وہ کن میں سے ہوں گے؟

سعید: قریش میں سے!

قادہ: قریش کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟

سعید: بنو ہاشم میں سے!

قادہ: بنو ہاشم کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟

سعید: بن عبدالمطلب میں سے!

قادہ: عبدالمطلب کی کون سی اولاد میں سے ہوں گے؟

سعید: حضرت قاطر رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے!

(کتاب الفتن: ص ۲۶۱)

ای طرح حضرت امام مہدیؑ کے نسب کے سلسلے میں نعیم بن حماد ہی نے

حضرت علی رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ذکر کی ہے:

﴿عَنْ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ مَنَا إِنَّمَا الْمَهْدِيُّ أَمْ مَنْ غَيْرُنَا؟ قَالَ بَلْ مَنَا، بَنِيَّاْخْتَمُ الدِّينَ كَمَا بَنَافَتْهُ، وَبَنَا يَسْتَنْقِذُونَ مِنْ ضَلَالَةٍ﴾

الفتنة كما استنقذوا من ضلاله الشرك، وبنا يؤلف الله  
بین قلوبهم فی الدين بعد عداوة الفتنة كما الف الله بین  
قلوبهم و دینهم بعد عداوة الشرک۔”<sup>۱۰</sup>

(كتاب الفتن: ص ۲۶۲، كتاب البر: ج ۲ ص ۵۷۳)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا  
رسول اللہ! مہدی ہم ائمہ ہدایت میں سے ہوں گے یا ہمارے  
علاوہ کسی اور خاندان سے؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا نہیں! بلکہ وہ  
ہم میں سے ہوں گے، اور جس طرح دین کی ابتداء، ہم سے ہوئی  
ہے اسی طرح اختتام بھی ہم پر ہی ہوگا، اور ہماری ہی وجہ سے لوگ  
فتنه کی گمراہیوں سے نجات پائیں گے جس طرح کہ شرک کی گمراہی  
سے انہوں نے ہماری وجہ سے نجات پائی، نیز ہمارے ہی ذریعہ اللہ  
تعالیٰ ان کے دلوں میں فتنہ کی عداوت کے بعد اسی طرح دینی  
الفتن پیدا فرمادیں گے جس طرح شرک کی عداوت کے بعد ان  
کے دلوں میں دینی الفت پیدا فرمائی۔“

اس طرح حضرت ابوسعید خدریؓ سے امام مہدیؑ کے نسب کے سلسلے میں مروی  
ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿هو من عترتي﴾ (كتاب الفتن: ص ۲۶۳)

”وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔“

جبکہ حضرت ام سلمہؓ کی روایت میں ”المهدی من عترتی“ کے الفاظ ہیں۔  
اور حضرت ام سلمہؓ کی ایک روایت میں ”المهدی من ولد فاطمة“ کے

الفاظ بھی ہیں۔ (ابن ماجہ: ۳۰۸۲)

## ﴿لفظ "عترت" کی تحقیق﴾

اس سے قبل بھی "عترت" کا لفظ گزرا ہے اور یہاں بھی آیا ہے اس کی تشرع حدث شہیر ملا علی قاریؒ کی زبانی ملاحظہ ہو:

﴿قال بعض الشراح العترة ولد الرجل من صلبه وقد تكون العترة الأقرباء ايضا و هي العمومية قلت المعينان لا يلامان بيانه بقوله "من اولاد فاطمة رضي الله عنها" وفي النهاية عترة الرجل اخص اقاربه و عترة النبي ﷺ بنو عبد المطلب وقيل قريش كلهم المشهور المعروف انهم الذين حرمت عليهم الزكوة اقول المعنى الاول هو المناسب للمرام وهو لا ينافي ان يطلق على غيره بحسب ما يقتضيه المقام وقيل عترته اهل بيته لخبر ورد وقيل ازواجه وذراته وقيل اهله وعشيرته الا قربون وقيل نسله الادنو وعليه اقتصر الجوهرى قلت وهو الذى ينبغي هنا ان عليه يقتصر ويختصر﴾ (مرقاۃ: ج ۱ ص ۲۷۳، ۲۷۵)

"بعض شارحين نے کہا ہے کہ "عترة" انسان کی صلبی اولاد کو کہتے ہیں اور کبھی اس کا اطلاق قریبی رشتہ داروں مثلاً پچاڑا وغیرہ پر بھی ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں معنی حضور ﷺ کے ارشاد کے "وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے" کے مناسب نہیں، نہایہ میں ہے کہ "عترة" انسان کے خاص قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں اور جب یہ لفظ حضور ﷺ کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد بنی عبد المطلب ہوں گے اور ایک قول یہ ہے کہ سارے قریش مراد ہوں گے اور مشہور و معروف قول یہ ہے کہ "عترة" سے وہ لوگ مراد ہیں

جن پر زکوٰۃ لینا حرام کر دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہلا معنی ہی مقصود کے مناسب ہے اور یہ اس بات کے منافی نہیں کہ مقام کے اعتبار سے لفظ ”عترة“ سے مراد اہل بیت نبوی ہیں ٹھوئے حدیث، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ کی ازواج و اولاد مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ کے اہل و عیال اور قریبی رشتہ دار مراد ہیں اور آخری قول یہ ہے کہ اس سے آپ کی قریبی نسل مراد ہے اور جو ہری نے اسی پر اکتفاء کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مقام پر تھی قول اختیار کرنے پر اکتفاء کرنا بہتر اور مناسب ہے۔

گویا فقط ”عترت“ کی تحقیق میں نو اقوال ہیں جن میں سے حسب بیان جو ہری اور اعتماد ملا علی قاریؓ آخری معنی زیادہ راجح ہے یعنی آپ کی قریبی نسل۔

واللہ اعلم بالصواب۔

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿المهدی منا اهل الیت یصلحه اللہ فی لیلۃ﴾ (ابن ماجہ: ۳۸۰)

”مهدی ہمارے گھروالوں میں سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں کر دیں گے“

جبکہ کتاب الفتن ص ۲۵۵ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یوں ہیں:

﴿المهدی یصلحه اللہ تعالیٰ فی لیلۃ واحده﴾

یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ظہور سے قبل حضرت امام مہدیؑ میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو ان کے منصب ولایت کے مناسب نہیں ہوں گی اس لیے اللہ تعالیٰ ظہور سے قبل ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرمائیں گے اس امر عظیم کے لیے تیار کر دیں گے۔

## ﴿حضرت امام مہدیؑ حسنی ہوں گے یا حسینی؟﴾

مذکورہ بالاقریر سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام نبی محمد بن عبد اللہ یا احمد بن عبد اللہ ہو گا اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے؟ سواس سلسے میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں گے زکر حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے، چنانچہ بذل الحجود: ج ۵ ص ۱۰۲ کے حاشیے پر یہ مرقوم ہے:

﴿وَحَكَى الدِّمْنَتِيُّ فِي حَوَاشِيهِ نَفِي كُونَهُ مِنْ أَوْلَادِ

الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْمَدْرَاجَاتِ﴾

”دُمْنَتِی“ نے اپنے حواشی میں امام مہدیؑ کے حضرت حسینؑ کی اولاد سے ہونے کی نفی بیان کی ہے جیسا کہ کتاب درجات میں ہے،

اسی طرح حضرت کاندھلویؑ نے فیض القدر لمناوی ج ۲۹ ص ۲۷۹ کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے:

﴿وَمَا رُوِيَ مِنْ كُونَهُ مِنْ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ فَوَاهْ جَدَا﴾

(تعليق الصبغ: ج ۲۷ ص ۱۹)

”حضرت مہدیؑ“ کے حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے ہونے کی روایت انہائی ضعیف ہے۔“

اور بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ امام مہدیؑ حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کا مسئلہ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی وہ روایت ہے جس کو حاکم اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

﴿يَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرَقِ، لَوْ

استقبلته الجبال لهدمها واتخذ فيها طرقاً

(کتاب الحسن: ص ۲۲۳)

”حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے مشرق کی طرف سے ایک آدمی نکلے گا، اگر اس کے راستے میں پہاڑ بھی حائل ہو جائیں تو وہ ان کو بھی گرا کر اس میں اپنا راستہ بنالے گا۔“

نیز علامہ سید برزنجمیؒ کی عبارت سے بھی حضرت امام مہدیؑ کے حسینی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، انہی کی زبانی ملاحظہ ہو:

﴿وَسِيرَ الْمَهْدَى بِالْجَيُوشِ حَتَّى يَصِيرَ بِوَادِى الْقَرَى، وَهُوَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ إِلَى جَهَةِ الشَّامِ فِي هَدْوَءٍ وَرَفْقٍ وَيَلْحِقُهُ هَنَاكَ أَبْنُ عَمِّهِ الْحَسَنِي فِي اثْنَيْ عَشَرَ الْفَأْنِ. فَيَقُولُ لَهُ يَا أَبْنَ عَمِّا إِنَّا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكَ إِنَّا أَبْنَ الْحَسَنِ وَإِنَّا مَهْدَى فَيَقُولُ لَهُ الْمَهْدَى بِلَ أَنَا الْمَهْدَى فَيَقُولُ الْحَسَنِي هَلْ لَكَ مِنْ آيَةٍ فَابْعِدْكَ؟ فَيُومَ الْمَهْدَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الطَّيْرِ فَيَسْقُطُ عَلَى يَدِيهِ وَيَغْرِمُ قَضِيبًا يَابِسًا فِي بَقْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي خَضْرَوْ يُورَقْ، فَيَقُولُ الْحَسَنِي يَا أَبْنَ عَمِّي! هَى لَكَ﴾ (الاشاعر: ص ۲۱۰)

”اور امام مہدیؑ اپنی افواج کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ”وادیٰ قری“ تک جا پہنچیں گے۔ ”جو کہ مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے دو مرطبوں کے فاصلے پر ہے۔“ وہاں انہیں ان کے پچازاد حسنی بھائی بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ میں چونکہ حضرت حسنؑ کا بیٹا اور مہدی ہوں اس لیے اس امر (خلافت) کا تم سے زیادہ حق دار ہوں، امام مہدیؑ کہیں گے کہ نہیں! مہدی تو میں ہوں، حسنی کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی

ہے جس کو دیکھ کر میں آپ کی بیعت کروں؟ اس پر امام مہدیؑ ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ ان کے سامنے آگرے گا اور ایک خشک بانس زمین کے ایک حصے میں گاڑ دیں گے وہ اسی وقت سر بزہ ہو جائے گا اور برگ وبار لانے لگے گا، یہ دیکھ کر حسنی کہیں گے کہ اے میرے چچازاد بھائی! یہ آپ کا ہی حق ہے۔“

معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدیؑ حسینی ہوں گے نہ کہ حسنی اور ماقبل میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ امام مہدیؑ حسنی ہوں گے۔ اب اس کا فیصلہ حضرت ماعلیٰ قاریؓ کی زبانی ملاحظہ ہو۔

﴿وَخَتَّلَفَ فِي أَنَّهُ مِنْ بَنِي الْحَسْنَةِ أَوْ مِنْ بَنِي الْحُسَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَامِعَابِينَ النِّسْبَتَيْنِ الْحَسْنَيْنِ وَالظَّاهِرِيْنِ أَنَّهُ مِنْ جَهَةِ الْأَبِ حَسَنَى وَ مِنْ جَانِبِ الْأُمِّ حُسَيْنَى﴾

(مرقاۃ الفاتح: ج ۱۰ ص ۲۷۳)

”اور اس بات میں اختلاف ہے کہ امام مہدیؑ حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں کی نسبت کو جمع کیے ہوئے ہوں گے اور اس میں ظاہر ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔“

تقریباً یہی بات بذل الجھود فی حل ابی داؤد ج ۵ ص ۱۰۲ اور تعلیق الصیح ج ۶ ص ۱۹۶ پر بھی مذکور ہے۔ اور حضرت کاندھلویؓ نے اس کی تائید میں طبرانیؓ کی روایت بھی پیش کی ہے جو اگرچہ ضعیف ہے لیکن شائع کی وجہ سے اس کا ضعف رفع ہو جاتا ہے اور وہ روایت یہ ہے:

﴿اَخْرَجَ اَبُو نُعِيمَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ اَنَّ مِنْهُمَا يَعْنِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ﴾

مهدی من ولد العباس عمیٰ ﴿اعلین الصبح ج ۶ ص ۱۹۶﴾  
 "حضور ﷺ نے (ایک مرتبہ) حضرت فاطمہؓ سے فرمایا قسم ہے  
 اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ ان دونوں یعنی  
 حسنؑ اور حسینؑ کی اولاد میں سے مہدی ہوں گے، میرے پچھا عباس  
 کے خاندان میں سے۔"

### ایک عجیب نکتہ:

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے نجیب الطرفین ہونے پر ملاعی قاریؒ نے  
 بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو  
 صاحزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت  
 ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، جبکہ  
 حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں صرف حضور ﷺ تشریف لائے اور وہ اکیلے ہی ان سب  
 کے قاسم بن گئے اور آپ کی تشریف آوری اولاد اسماعیل کے لیے باعث عزت و  
 شرافت بن گئی اور آپ ﷺ "خاتم الانبیاء" تھے، اسی طرح جب اکثر ائمہ اور اولیاء  
 کرام حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے ہوئے تو مناسب تھا کہ حضرت حسنؑ کی اولاد میں  
 سے بھی ایک ایسا شخص آئے جو ان سب کے قاسم بن گیا۔ قرار پائے اس  
 کے لیے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا انتخاب کیا گیا۔  
 اس موقع پر ملاعی قاریؒ کی عبارت ملاحظہ ہو:

﴿قیاساً علیٰ مَا وَقَعَ فِي وَلْدِ ابْرَاهِيمَ وَهُمَا اسْمَاعِيلَ  
 وَاسْحَاقَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِيثُ كَانَا نَبِيَّاً بْنِي  
 اسْرَائِيلَ كَلَّهُمْ مِنْ بْنِي اسْحَاقَ وَانْمَانَبِيَّ مِنْ  
 ذُرِيَّةِ اسْمَاعِيلَ نَبِيَّاً مُلِيَّةً وَقَامَ مَقَامُ الْكُلِّ وَنَعِمَ الْعَوْضُ  
 وَصَارَ خَاتِمَ النَّبِيَّاً فَكَذَلِكَ لِمَا ظَهَرَتْ أَكْثَرُ الْأَئمَّةِ﴾

وَاكَابِرُ الْأَمَةِ مِنْ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ فَنَاسِبُ أَنْ يَنْجِزَ  
الْحُسْنَ بَانَ اعْطَى لَهُ وَلَدٌ يَكُونُ خَاتِمُ الْأُولَيَاءِ وَيَقُومُ  
مَقَامَ سَائِرِ الْأَصْفِيَاءِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ قَيلَ لِمَا نَزَّلَ الْحُسْنَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْخَلَافَةِ الْصُّورِيَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي مِنْقَبَتِهِ  
فِي الْأَحَادِيثِ النَّبُوَيَّةِ اعْطَى لَهُ لَوَاءً وَلَيْلَةَ الْمَرْتَبَةِ الْقَطْبِيَّةِ  
فَالْمَنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَمِيلَتِهَا النِّسْبَةُ الْمَهْدُوَيَّةُ  
الْمَقَارِنَةُ لِلنَّبُوَّةِ الْعِيسَوِيَّةِ وَاتِّفَاقُهُمَا عَلَى اعْلَاءِ كُلُّ مُكَفَّلٍ  
الْمَلَةِ النَّبُوَيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا الْوَفُوفُ سَلَامٌ وَآلَافُ التَّحْيَةِ ﴿۲﴾  
(مرقاۃ الفاتح: ج ۱۰ ص ۱۷۲)

اس عبارت میں ملاعلیٰ قاریٰ نے دو وجہیں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو وہی جو پچھے  
بیان ہوئی اور دوسرا یہ کہ حضرت حسینؑ نے خلافت کو رضاخداوندی کی خاطر چھوڑا اور  
اپنے بھائی حضرت حسینؑ کو بھی اس سے روکا جس کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قطب  
کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمادیا اور ان کی اولاد میں خلافت رکھ دی چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت  
حسینؑ کی اولاد میں سے امام مہدیؑ کو خلیفہ بنادیں گے کیونکہ یہ عادۃ اللہ ہے کہ جو شخص اللہ  
تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے  
بہترین چیز عطا فرمادیتے ہیں۔

تقریباً یہی بات خاتم المحدثین حضرت مولانا محمد ادريس کاندھلویؒ نے تعلیق  
اصبحیک ج ۲۶ ص ۱۹۷ پر تحریر فرمائی ہے۔

﴿ کیا امام مہدیؑ حضرت عباسؓ کی اولاد میں سے ہوں گے؟ ﴾  
ذکرہ بالا روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام مہدیؑ، حضرت فاطمہؓ کی  
اولاد سے نجیب الطرفین سید ہوں گے لیکن اس پر حضرت عثمان بن عفانؓ کی روایت سے  
اعتراض لازم آتا ہے جس میں یہ ہے کہ امام مہدیؑ، حضرت عباسؓ کی اولاد میں سے ہوں

گے۔ (کتاب البر بانج ۲ ص ۵۹۱، مرقاة المفاتیح ج ۱۰ ص ۱۷۵)

اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حجر یقینی کی تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ لَا مَانِعٌ مِّنْ أَنْ يَكُونَ ذُرِّيَّتَهُ ﴾  
وللتعباس فيه ولادة من جهة ان امهاته عباسية والحاصل  
ان للحسن فيه الولادة العظمى لأن احاديث كونه من  
ذریته اکثر وللحسین فيه ولادة ايضا وللتعباس فيه ولادة  
ایضا ولا مانع من اجتماع ولادات المتعددين في  
شخص واحد من جهات مختلفه﴾ (القول الخضر: ص ۲۳)

”ان مختلف روایات کو اس طرح جمع کرنا ممکن ہے کہ امام مہدیؑ  
(اصలہ) تو حضور ﷺ کی ذریت میں سے ہوں گے اور (تابع) حضرت عباسؓ کی اولاد میں سے بھی اس اعتبار سے ہوں گے کہ ان کے سلسلہ نسب میں سب سے زیادہ حضرت حسنؓ کی نسبت نمایاں ہوگی اس لیے کہ اس قسم کی روایات زیادہ ہیں اس کے بعد حضرت حسینؑ اور پھر حضرت عباسؓ کی ولادت بھی اس میں شامل ہوگی اور ایک ہی شخص میں مختلف جہات سے متعدد ولادتوں کا جمع ہونا ممکن ہے۔“

علامہ ابن حجر یقینی کے اس جواب کو آسان لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک آدمی کئی آدمیوں کی اولاد ہو سکتا ہے مثلاً ایک شخص کے سلسلہ نسب میں اس کے آباء اجداد میں سے کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا جو مثلاً حضرت عباسؓ کے خاندان میں سے تھی، اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسینؑ کے خاندان میں سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا پھر اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسنؑ کے خاندان کے ساتھ مناکحت کا تعلق کر لیا اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح امام مہدیؑ کے نسب کی روایات میں کوئی تعارض اور اختلاف باقی نہیں رہتا۔

جبکہ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں

﴿وَاصْمَارُواهُ الدَّارُقَطْنِي فِي الْأَفْرَادِ عَنْ عُشَّـمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَهْـدِيَ مِنْ وَلَدِ الْعَبَـاسِ عَمِي فَمَعَ ضَعْـفِ اسْـنَادِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَهْـدِيِ الَّذِي وَجَدَ مِنَ الْخَلْفَـاءِ الْعَـبَـاسِيَةِ أَوْ يَكُونُ لِلْمَهْـدِيِ الْمَوْعِـدِ أَيْضًا نَسْـبَـةً نَسْـبِـيَةً إِلَيْـهِ﴾ (مرقاۃ الفاتح ج ۱۰ ص ۱۷۵)

”باقی رہی وہ روایات جس کو دارقطنی نے افراد میں حضرت عثمانؓ سے روایت کیا ہے کہ مہدی میرے پچھا عباسؓ کی اولاد میں سے ہوں گے تو اس کی سند ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ روایت خلفاء عباسیہ میں سے خلیفہ مہدی پر محمول ہے یا پھر مہدی موعود کی بھی نسبی طور پر بن عباس کی طرف نسبت ہوگی۔“

گویا ملا علی قاریؓ نے اس حدیث کے تین جواب دیے ہیں:

(۱) اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

(۲) اس کا محمل خلیفہ مہدی عباسی ہے۔

(۳) یہ بھی ممکن ہے کہ مہدی موعود کے نسب نامے میں عباسی خاندان کا کوئی فرد ہو۔

### ﴿حضرت امام مہدیؑ کا لقب اور کنیت﴾

جیسا کہ اس سے قبل یہ بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا اسم گرامی محمد بن عبد اللہ یا احمد بن عبد اللہ ہو گا چنانچہ سید بزرگ تحریر فرماتے ہیں:

﴿أَمَا اسْـمُهُ فَفِي أَكْثَرِ الرَّوَايَـاتِ أَنَّهُ مُحَمَّـدٌ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ أَحْمَـدٌ وَأَسْـمُهُ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّـهِ﴾ (الاشاعت: ص ۱۹۲)

”حضرت امام مہدیؑ کا نام اکثر روایات میں محمد اور بعض میں احمد مذکور ہے اور ان کے والد کا نام عبد اللہ ہو گا۔“

یہی بات شیخ یوسف بن عبد اللہ الوائل نے اپنی کتاب اشراط الساعة ص ۲۳۹ پر کہی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ”مہدی“ ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہو گا اور اس نام کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ یہ ہو گی کہ مہدی، ہدایت سے ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کہنے اور اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس پر ان کی رہنمائی اور دشکری فرمائیں گے اس لیے ان کو ”مہدی“ کہتے ہیں چنانچہ سید بزرگی تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَلِقَبِهِ الْمُهَدِّى لَانَ اللَّهُ هَدَاهُ لِلْحَقِّ، وَالْجَابِرُ لَا نَهُ﴾

يَجْبَرُ قُلُوبَ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ ﴿أَوْلَانَهُ يَجْبَرُ إِلَيْهِ﴾ (الاشاعر: ص ۱۹۳)

الجبارين والظلمين ويقصدهم ﴿الاشاعر: ص ۱۹۳﴾

”ان کا لقب ”مہدی“ ہو گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی طرح ان کا لقب ”جابر“ بھی ہو گا کیونکہ وہ امت محمدیہ کے زخمی قلوب پر مرہم رکھیں گے یا اس لیے کہ وہ ظالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیں گے۔“

یہ عبارت حضرت امام کے دو لقب طاہر کر رہی ہے ایک تو وہی جو کہ مشہور و معروف ہے یعنی مہدی، اور دوسرا لقب ”جابر“ ہو گا لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس مقام پر ”جابر“ جبر سے نہیں جس کا معنی ظلم ہوتا ہے بلکہ یہاں ”جابر“، ”جبیرہ“ سے ہے جوٹوئی ہوئی بڑی کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والی کچھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ امام مہدی لوگوں کی تالیف قلب فرمائیں گے اس لیے ان کا لقب ”جابر“ ہو گا۔ یا ان کو ”جابر“ کہتے کی وجہ یہ ہو گی کہ ”جابر“ کا معنی ہے ” غالب“ چونکہ وہ ظالموں پر غالب آ جائیں گے اس لیے ان کا لقب ”جابر“ ہو گا۔

امام مہدی کی کنیت ایک قول کے مطابق ”ابو عبد اللہ“ ہو گی اور ایک قول کے مطابق ”ابوالقاسم“ ہو گی چنانچہ سید بزرگی تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَكَنِيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَفِي الشَّفَاءِ لِلْقَاضِي عِياضِ رَحْمَهُ﴾

اللہ ان کنیتہ ابو القاسم ﷺ (الاشاع: ص ۱۹۳)

”امام مہدی کی کنیت ابو عبد اللہ ہوگی اور قاضی عیاض کی کتاب شفاء میں ہے کہ ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔“

لیکن ابو القاسم کنیت رکھنے پر ایک حدیث سے اعتراض وارد ہو گا کہ جس میں حضور ﷺ کے نام اور کنیت کو ایک ہی شخص کے لیے جمع کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے جبکہ حضرت امام مہدی کا نام اور کنیت دونوں حضور ﷺ کے موافق ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو ممانعت وارد ہوئی ہے کہ کوئی شخص حضور ﷺ کا نام اور کنیت اکٹھی نہ رکھے بلکہ یا تو صرف نام رکھے یا صرف کنیت، وہ حضور ﷺ کے زمانے پر محظوظ ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی شخص ایسا نہ کرے، ہاں بعد میں اجازت ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت محمد بن حفیہؓ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا:

﴿ارایت ان ولدلى بعدک ولداسمیہ باسمک واکنیه

بکنیتک قال نعم رواه ابو داؤد﴾ (مشکوٰۃ الصافع: ص ۲۰۸)

”آپ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ اگر آپ کی وفات کے بعد میرے یہاں کوئی اولاد ہوئی تو میں آپ کے نام پر اس کا نام اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھ دوں؟ فرمایا ہاں! کوئی حرج نہیں۔“

اس حدیث میں اس بات کی صراحت اجازت ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز ہے چنانچہ حضرت ملا علی قاریؓ تحریر فرماتے ہیں:

﴿وقبل النہی مخصوص بحیاته لثلایل تسخیح خطابه

بخطاب غیرہ وهذا هو الصحيح﴾ (مرقة الفاتح: ج ۹ ص ۷۰)

”اور ایک قول یہ ہے کہ ممانعت حضور ﷺ کی زندگی کے ساتھ خاص تھی تاکہ التباس لازم نہ آئے اور یہی صحیح ہے۔“

پھر اس کے بعد ملا علی قاریؒ نے علامہ طبیعیؒ کے حوالے سے چند اقوال اس سلسلے میں مزید نقل کیے ہیں اور ہر ایک پر تنقید کی ہے، یہ بہت عمده بحث ہے اہل علم حضرات مرقاۃ کی طرف رجوع فرمائیں۔

### ﴿حضرت امام مہدیؑ کی جائے پیدائش﴾

حضرت امام مہدیؑ کی ولادت باسعادت ” مدینہ منورہ“ میں ہو گی جیسا کہ فیم بن حماد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔

﴿المهدی مولده بالمدینة﴾ (کتاب المحن: ص ۲۵۹)

علامہ سید بزرگ نجیبؒ نے بھی الاشاعہ میں نعیم بن حماد ہی کی مذکورہ روایت کو نقل کرتے ہوئے حضرت امام مہدیؑ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ کو قرار دیا ہے۔

جبکہ امام قرطبیؒ نے اپنی کتاب ”الذکرہ“ میں امام مہدیؑ کی جائے پیدائش بلا و مغرب میں بیان کی ہے۔ کما ذکرہ البرزنجی فی الاشاعہ ص ۱۹۳۔ لیکن صحیح اول ہی ہے۔

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کی سیرت﴾

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اپنی سیرت "اور اخلاق" میں سرکار دو عالم ﷺ کے مشاہدہ اور مثال ہوں گے کیونکہ وہ حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ والدین کی نیکی کا اثر اور پرتو اولاد پر پڑتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور حضرت علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ سیدھا کر دیا تھا اور بعد میں اس کی حکمت یہ بیان فرمائی تھی:

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَّا صَالِحًا﴾ (سورۃ الکھف آیت نمبر ۸۲)

"ان پچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔"

معلوم ہوا کہ والدین کے نام اور کام کا اثر اولاد پر بھی نمایاں ہوتا ہے اور والدین کی نیکی اولاد کے بھی کام آیا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مہدیؑ کا طور طریقہ اور عادات حضور ﷺ کے مشاہدہ ہوں گی جیسا کہ صاحب مظاہر حق جدید، حدیث "لا تذهب الدنيا" کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔

"حضور ﷺ کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ ان کا تعلق صرف نبی اور نسلی نہیں ہوگا بلکہ روحانی اور شرعی بھی ہوگا یعنی ان کا طور طریقہ اور ان کے عادات و معمولات حضور ﷺ کے طور طریقے اور آپ کے عادات و معمولات کے مطابق ہوں گے۔" (مظاہر حق جدید: ج ۵ ص ۳۷)

## امام مہدیؑ کی قیادت:

سیرت میں ایک وصف شجاعت بھی ثمار ہوتا ہے جس کا اظہار عام طور پر میدان کارزار میں قیادت کی اعلیٰ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر ہوتا ہے، امام مہدیؑ جن لوگوں کو اپنے لشکر کا کمانڈر مقرر کریں گے اسی سے ان کے سیاسی تدبیر کا علم ہو جائے گا، یہ بات

نعم بن حماد کی زبانی ملاحظہ ہو:

﴿فَقَادَهُ الْمَهْدِيُّ خَيْرُ النَّاسِ، أَهْلُ نَصْرَتِهِ وَبَيْعَتِهِ مِنْ أَهْلِ كُوفَانَ وَالْيَمَنِ وَابْدَالِ الشَّامِ، مَقْدِمَتِهِ جَبَرِيلُ وَسَاقِهِ مِيكَائِيلُ مَحْبُوبٌ فِي الْخَلَاقِ، يَطْفَئُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْفَتْتَةَ الْعُمَيَاءَ وَتَامِنَ الْأَرْضَ حَتَّى الْمَرْأَةُ لِتَحْجُّ فِي خَمْسَ نَسْوَةٍ مَاعِنْهُنِّ رَجُلٌ، لَا يَتَّقَى شَيْئًا إِلَّا اللَّهُ، تَعْطِي الْأَرْضَ زَكْوَتَهَا وَالسَّمَاءَ بَرَكَتَهَا﴾

(کتاب الحسن: ص ۵۰)

”امام مہدیؑ کے شکر کے قائدین بہترین لوگ ہوں گے، ان کے معاون اور ان کی بیعت کرنے والے کوفہ، بصرہ اور یمن کے لوگ اور شام کے ابدال ہوں گے، ان کے شکر کا ہر اول دستے حضرت جبریل علیہ السلام اور پیغمپرے کا محافظ دستے حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے، وہ محبوب خلاق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنہ کو ختم فرمائیں گے اور زمین میں ایسا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت پانچ عورتوں کے ساتھ مل کر بغیر کسی مرد کی موجودگی کے اطمینان سے حج کر لے گی، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کے زمانے میں زمین اپنی پیداوار اور آسمان اپنی برکتیں بر سادے گا۔“

امام مہدیؑ کا زمانہ:

مذکورہ بالامضمون کے آخری جملہ کی وضاحت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿يرضى عنـه ساكنـ السمـاء وـساـكنـ الـأـرـض ، لـاتـدعـ السمـاء مـن قـطـرـهـاـشـيـناـ الـاصـبـتهـ ، وـلاـ الـأـرـضـ مـنـ نـباتـهـاـ﴾

شینا الا اخر جتہ حتی یتمنی الاحیاء الاموات ﴿

(کتاب الحجۃ ص: ۲۵۲)

”امام مہدیؑ سے آسمان میں رہنے والے بھی راضی ہوں گے اور زمین کے باشندے بھی خوش ہوں گے، آسمان اپنے تمام قطرے بہادے گا، زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی یہاں تک کہ (خوشحالی دیکھ کر) زندہ لوگ، مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے۔“

اسی مضمون کی روایت مخلوکہ شریف میں بھی ہے۔ اور یہ حدیث اپنے مدلول کے لحاظ سے بہت واضح ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا زمانہ ایسی خوشحالی اور عام فراؤانی کا ہو گا کہ ملائکہ بھی ان سے خوش ہوں گے اور زمین والے بھی، بارشیں کثرت سے ہوں گی اور زمین اپنی پوری پیداوار اگائے گی یہاں تک کہ اس قدر خوشحالی دیکھ کر اس زمانے کے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش! ہمارے آباؤ اجداد بھی زندہ ہوتے اور اس خوش حالی سے لطف اندوز ہوتے۔

### امام مہدیؑ کی سخاوت:

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی سخاوت اس قدر عام ہوگی کہ ہر ایک پر اسکی بارش بر سے گی اور اس قدر تمام ہوگی کہ پھر کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿یکون فی امتی المهدی ان قصر فسیع والافتیع،  
تنعم فيه امتی نعمة لم يسمعوا بمثلها فقط، تؤتی  
اکلها ولا تترك منهم شيئاً والمال يومئذ كدوس،  
فيقوم الرجل فيقول يا مهدى! اعطني فيقول خذ﴾

(الذکرہ ص: ۶۹۹)

”میری امت میں مہدی ہوں گے جو کم از کم سات یا نو سال

(خلیفہ) رہیں گے، ان کے زمانے میں میری امت ایسی نعمتوں اور فرداویں میں ہو گی کہ اس سے پہلے اس کی مثال بھی نہ سن گئی ہو گی، زمین اپنی تمام پیداوار اگلے دے گی اور کچھ بھی نہ چھوڑے گی اور اس زمانے میں مال کھلیاں میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہو گا چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے مہدی! کچھ مجھے بھی دیجئے! تو وہ اس سے فرمائیں گے کہ (حسب منشاء جتنا چاہو) لے لو۔“

اسی طرح حضرت ابوسعید خدریؓ سے ایک اور روایت مروی ہے:  
 ﴿عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَشِبْنَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي أَمْمَتِي الْمَهْدِيَ يَخْرُجُ يَعِيشُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا زِيدًا الشَّاكُ قَالَ قَلْنَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ سَنِينَ قَالَ فِي جَنِي إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيًّا اعْطُنِي اعْطُنِي قَالَ فِي حِشْنِي لَهُ فِي ثُوبَهُ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ﴾ (ترنی حديث نمبر ۲۲۲۲)

”حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہمیں حضور ﷺ کی وفات کے بعد پیش آنے والے حادثات کے خوف نے آگھیرا تو ہم نے اس سلسلے میں حضور ﷺ سے دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا (گھبرا نے کی کوئی بات نہیں) میری امت میں مہدی کا خروج ہو گا جو کہ پانچ یا سات یا نو سال (بطور خلیفہ کے) زندہ رہیں گے۔ (سالوں کی تعداد میں راوی کوشک ہے۔) ہم نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ فرمایا کئی سال پھر فرمایا کہ ایک آدمی ان کے پاس آ کر کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ دیجئے مجھے کچھ دیجئے! تو وہ اپ بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال

دیں گے جس کو وہ اٹھا سکے۔“ یعنی کسی آدمی میں جتنا وزن اٹھانے کی ہمت ہو سکتی ہے۔ امام مہدی اس سے کم نہیں دیں گے۔

نیز حضرت ابو سعید خدریؓ کی ایک مرفوع روایت میں یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ آتی ہے۔

﴿مِنْ خَلْفَانَكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَتَّىٰ وَلَا يَعْدُه عَدَاهُ﴾

(مسلم شریف: ۷۳۷)

”تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہو گا لوگوں کو مال لپ بھر بھر کر دیں گے اور اس کو شمار بھی نہیں کریں گے۔“

روایات سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس پر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ جیسا شخص بھی پورا نہیں اتر سکا اور اس سے امام مہدیؓ ہی مراد ہیں۔

﴿حضرت امام مہدیؓ کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا اجمالی نقشہ﴾

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا سید بر زنجیؑ نے ایک بہت عمده نقشہ کھینچا ہے جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

”امام مہدی حضور ﷺ کی سنت پر عمل کریں گے، کسی سونے ہوئے شخص کی نیز خراب کر کے اسے جگائیں گے، ناقن خون نہیں بھائیں گے، ہاں! البتہ سنت کے خلاف کام کرنے والے سے جہاد کریں گے۔ تمام سنتوں کو زندہ کر دیں گے اور ہر قسم کی بدعت کو ختم کیے بغیر چین نہ لیں گے، آخر زمانے میں ہونے کے باوجود دین پر اسی طرح قائم ہوں گے جس طرح ابتداء میں حضور ﷺ قائم تھے۔ ذوالقرنین سکندر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا کے فرمازوں ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے (عیسائیت کو منادیں گے)۔ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و تم سے بھری ہوئی ہوگی، لوگوں کو بے حساب لپ بھر بھر کر مال دیں گے۔ مسلمانوں میں الفت، پیار و محبت اور نعمتوں کو لوٹا دیں گے، اور تقسیم بالکل

ٹھیک ٹھیک کریں گے، آسمان میں رہنے والے ملائکہ بھی ان سے راضی ہوں گے اور زمین پر بننے والے جاندار بھی ان سے خوش ہوں گے، پرندے فضاؤں میں، وحشی جانور جنگلات میں اور چھپلیاں سمندروں میں ان سے خوش ہوں گی۔ امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گے حتیٰ کہ ایک منادی آواز دے گا کہ جس کو مال کی ضرورت ہو، وہ آ کر لے جائے تو اس کے پاس صرف ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ مجھے مال دینے کا حکم اس سے کہے گا کہ تم خزانچی کے پاس جا کر اس سے کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا حکم دیا ہے چنانچہ وہ شخص خزانچی کے پاس آ کر اسے پیغام پہنچا دے گا تو وہ کہے گا کہ تم حسب مشا جتنا چاہو لے لو، وہ شخص اپنی گود میں بھر بھر کر مال جمع کرنا شروع کر دے گا کہ اچانک اسے شرم سی محسوس ہو گی اور وہ اپنے دل میں کہے گا کہ تو امت محمدیہ کا سب سے زیادہ لاپچی انسان ہے، یہ سوچ کرو وہ شخص اس مال کو واپس کرنا چاہے گا تو اس سے وہ مال واپس نہیں لیا جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ ہم لوگ کچھ دے کر واپس لینے والوں میں سے نہیں ہیں، ان کے زمانے میں تمام لوگ ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ اس سے پہلے اس کی مثال لوگوں نے سنی تک نہ ہو گی۔ باریں اس قدر کثرت سے ہوں گی کہ آسمان اپنا کوئی قطرہ پس اندوختہ نہیں چھوڑے گا، اور زمین اتنی پیداوار اگائے گی کہ ایک بیج بھی ذخیرہ نہیں کرے گی، ان کے زمانے میں جنگیں ہوں گی، وہ زمین کے نیچے سے اس کے خزانوں کو نکال لیں گے اور شہروں کے شہر فتح کر لیں گے، ہندوستان کے بادشاہ ان کے سامنے پابند سلاسل پیش کیے جائیں گے اور ہندوستان کے خزانوں کو بیت المقدس کی آرائش و ترکیم کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لوگ ان کے پاس اس طرح آئیں گے جیسے شہد کی کھلیاں اپنی ملکہ اور سردار کے پاس آتی ہیں حتیٰ کہ لوگ اپنی سابقہ نیک حالت پر واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کوہوں پر مارتے ہوں گے، ان کے لشکر کے سب سے آگے جبریل علیہ السلام اور حفاظت کی خاطر سب سے پیچھے میکا تیل علیہ السلام ہوں گے، ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ہی جگہ چریں گے، پیچے سانپ اور بچھوؤں سے

کھلیں گے اور وہ ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، انسان ایک مدد (خاص مقدار) بولے گا اور اس سے سات سو کی پیداوار ہو گی۔ سود خوری، دباؤں کا نزول، زنا اور شراب نوشی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کی عمریں لمبی ہوں گی، امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے گا۔ شریروں بد کا رلوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضور ﷺ کی اولاد و اہل بیت سے بعض رکھنے والا کوئی نہ رہے گا، امام مہدیؑ خلاائق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنے کی آگ کو بجھا کیں گے۔ اور زمین میں اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت بغیر کسی مرد کے پانچ عورتوں کے ساتھ مل کر حج کرائے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہیں ہو گا، نیز انبیاء کرام علیہم السلام کے اسفار میں لکھا ہے کہ امام مہدیؑ کے فیصلوں میں ظلم و نا انصافی کا کوئی شایبہ تک نہیں ہو گا۔<sup>(الاشاعت لاشراط الساعة: ص ۱۹۶-۱۹۷)</sup> طاؤں سے منقول ہے کہ امام مہدیؑ اپنے عمال کی کڑی غرائبی کرنے والے،

خجی اور مسکینوں پر رحم کرنے والے ہوں گے۔ (کتاب الفتن: ص ۲۵۰)

الغرض! وہ تمام خوبیاں جو ایک عمدہ قائد اور اچھے امیر میں ہوئی چاہئیں، وہ ان تمام سے متصف ہوں گے اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ حالت یکا یک بنا دیں گے جیسا کہ اس سے قبل آپ پیر و ایت پڑھ آئے ہیں کہ ”مہدی ہمارے گھر والوں میں سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی کر دیں گے۔“

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کا حلیہ مبارک﴾

حضرت امام مہدیؑ متوسط قد و قامت کے مالک، گندمی رنگ، کشادہ پیشانی، لمبی اور ستواں ناک والے ہوں گے۔ ابر و قوس کی طرح گول ہو گی، کھلتا ہوا رنگ ہو گا، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے اور بغیر سرمہ لگائے ایسا محسوس ہو گا کہ گویا سرمہ لگائے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات سید بزرنجیؒ کی زبانی ملاحظہ ہوں۔

﴿وَاما حلیته فانه آدم ضرب من الرجال ربعة، اجلی

الجهة اقنى الانف اشمه، ارج ابلج، اعين اكحل

العينين، براق الشايا افرقها، في خده اليمن خال اسود،  
 يضي وجهه كانه كوكب درى، كث اللحية، في كتفه  
 علامه للنبي ﷺ، اذيل الفخذين، لونه لون عربي،  
 وجسمه جسم اسرائيلى، في لسانه ثقل، واذا ابطاع عليه  
 الكلام ضرب فخذه الايسر بيده اليمنى، ابن اربعين  
 سنة، وفي رواية مابين الثلاثين الى اربعين، خاشع لله  
 خشوع النسر بجنا حيه، عليه عبادات قطوانيات يشبه  
 النبي ﷺ في الخلق لا في الخلق (الاشاعر: ص ۱۹۵ - ۱۹۳)  
 ”امام مہدی“ کا حلیہ یہ ہے کہ وہ انتہائی گندی رنگ، ہلکے چلکے جسم  
 والے، متوسط قد و قامت کے مالک، خوبصورت کشادہ پیشانی  
 والے، بھی ستواں ناک والے ہوں گے، ابر و قوس کی مانند گول اور  
 رنگ چلتا ہوا ہوگا، بڑے بڑی سیاہ قدر تی سرگیں آنکھوں والے  
 ہوں گے، سامنے کے دونوں دانت انتہائی سفید اور ایک دوسرے  
 سے کچھ فاصلے پر ہوں گے (بالکل ملے ہوئے نہ ہوں گے) دائیں  
 رخسار پر سیاہ تل کا نشان ہوگا، روشن ستارے کی طرح ان کا چہرہ  
 چلتا ہوگا، گھنی واڑھی ہوگی، کندھے پر حضور ﷺ کی طرح کوئی  
 علامت ہوگی کشادہ رانیں ہوں گی، رنگ اہل عرب کی طرح اور  
 جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا، زبان میں کچھ ثقل ہوگا جس کی وجہ سے  
 بولتے ہوئے لکنت ہوا کرے گی اور اس سے تنگ آ کر اپنی بائیں  
 ران پر اپنا دایاں ہاتھ مار کریں گے، ظہور کے وقت ۲۰ سال کی عمر  
 ہوگی اور ایک روایت کے مطابق ۳۰ سے ۴۰ سال کے درمیان عمر  
 ہوگی، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہوئے پرندوں کی  
 طرح اپنے بازو پھیلا دیا کریں گے، (اصل میں ”نصر“ گندھ کو کہتے

ہیں جس کا ترجمہ یہاں پر نہ کیا گیا ہے۔) اور دو سفید عبارتیں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اخلاق میں حضور ﷺ کے مشابہ ہوں گے لیکن خلقی طور پر (مکمل) مشابہ نہیں ہو گے۔“

حضرت امام مہدیؑ کا حلیہ حضرت علیؑ سے بھی اسی طرح منقول ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ بدلتے ہوئے ہیں، اس کو غیم بن حماد کی زبانی ملاحظہ فرمائیے:

﴿كَثُرَ اللَّحِيَةُ، أَكَحْلَ الْعَيْنَيْنِ، بِرَاقِ الشَّايَا، فِي وَجْهِهِ  
خَالٌ، أَقْنَى إِجْلَى، فِي كَتْفَهِ عَلَامَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَخْرُجُ  
بِرَايَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ مَرْطَ مَخْمَلَةٍ سُودَاءَ مَرْبَعَةَ،  
فِيهَا حِجْرٌ مُّنْشَرٌ مِّنْذُ تَوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا  
تَنْشَرُ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَهْدِيُّ، يَمْدُهُ اللَّهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ مِنَ  
الْمَلَكَةِ، يَضْرِبُونَ وُجُوهَ مِنْ خَالِفَهُمْ وَادِبَارَهُمْ، يَبْعَثُ  
وَهُوَ مَا بَيْنَ الشَّلَيْنِ وَالْأَرْبَعَيْنِ﴾ (کتاب المقن، ص: ۲۵۹)

”امام مہدیؑ کی ڈاڑھی گھنی ہو گی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے، اگلے دو دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر قتل کا نشان ہو گا، لمبی ستواں ناک والے ہوں گے، کندھے پر حضور ﷺ کی علامت ہو گی، خروج کے وقت ان کے پاس حضور ﷺ کا چوکور، سیاہ ریشمی روئیں دار جھنڈا ہو گا جس میں (ایسی روحاں) بندش ہو رگی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور ﷺ کی وفات سے لے کر ظہور مہدیؑ سے قبل کبھی نہیں پھیلا�ا جا سکا ہو گا، (ہلایا نہیں جا سکا ہو گا) اللہ تعالیٰ تین بزرار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جوان کے مخالفین کے چہروں اور کوہوں پر مارتے ہوں گے، ظہور کے وقت ان کی عمر ۳۰ سے ۳۰ سال کے درمیان ہو گی۔“

﴿حضرت امام مہدیؑ کی خلافت، علی منهاج النبوة ہوگی﴾

حضرت امام مہدیؑ کی سیرت کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہو گا کہ وہ دوبارہ خلافت علی منهاج النبوة قائم کریں گے جس سے دور نبوی اور خلفائے راشدین کے روح پرور زمانے کی یاد تازہ ہوگی چنانچہ اس سلسلے میں مشکوٰۃ شریف کی حضرت حذیفہؓ سے مروی روایت ملاحظہ ہو:

﴿عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ تَكُونُ النَّبُوَةُ فِيْكُمْ مَا شاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ أَنْ  
تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خَلَافَةً عَلَى مَنْهَاجِ النَّبُوَةِ مَا شاءَ اللَّهُ أَنْ  
يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مَلْكًا عَاصِيًّا فَيَكُونُ  
مَا شاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مَلْكًا  
جَبَرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ  
تَكُونُ خَلَافَةً عَلَى مَنْهَاجِ النَّبُوَةِ ثُمَّ سُكِّتَ . قَالَ حَبِيبٌ فَلَمَّا  
قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَذْكَرْهُ أَيَّاهُ  
وَقَلَّتْ أَرْجُوَاتُ أَنْ تَكُونَ امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاصِيِّ  
وَالْجَبَرِيَّةِ فَسَرَّبَهُ وَأَعْجَبَهُ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَوَاهُ  
أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَةِ﴾ (مشکوٰۃ الصانع: ج ۳۶ ص ۲۶)

”نعمان بن بشیرؓ، حضرت حذیفہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا اور طریقہ نبوت کے مطابق حسب منشاء خداوندی خلافت رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی اور ارادہ خداوندی کے مطابق رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد ظلم کی حکومت ہوگی اور حسب منشاء خداوندی

رہے گی پھر اللہ اس کو بھی انھا لے گا اور دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة  
قام ہو جائے گی، یہ کہہ کر آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔“  
راوی حدیث حبیب کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو  
میں نے بغرض نصیحت ان کے پاس یہ حدیث لکھ بھیجی اور کہا کہ مجھے  
امید ہے کہ آپ ہی کاث کھانے والی اور ظالمانہ حکومت کے بعد وہ  
امیر المؤمنین ہیں (جس کے بارے میں دوبارہ خلافت علی منہاج  
النبوة کی پیشگوئی وارد ہے) یعنی کہ عمر بن عبد العزیز بہت سرور  
اور خوش ہوئے۔“

اس حدیث میں دو مرتبہ خلافت علی منہاج النبوة کا ذکر ہے، پہلے مرتبہ تو نبوت  
کے بعد جس کا قیام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے ہو کر خلفاء راشدین  
پر جا کر فتحی ہو گیا، اس کے بعد کاث کھانے والی حکومت، پھر جرمی حکومت اور اس کے  
بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة کے قیام کا تذکرہ ہے اس دوسری خلافت کا قیام امام  
مہدیؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گا چنانچہ اس حدیث کی شرح میں ملا  
علی قاری تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَالْمَرَادُ بِهَا زَمَنٌ عَيْسَىٰ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

وَالْمَهْدِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ﴾ (مرقاۃ: ج ۱۰۹ ص ۱۰۹)

”اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رحمہ اللہ کا  
زمانہ ہے۔“

نتیجہ: اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض حضرات نے دوبارہ خلافت علی  
منہاج النبوة کے قیام کے لیے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کو اس حدیث کا مصدقہ گردانا  
ہے لیکن یہ ان حضرات کی اپنی رائے ہے، حدیث کا اصل محل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور  
امام مہدی علیہ الرضوان کا زمانہ ہے جیسا کہ ابھی آپ ملا علی قاریؒ کے حوالے سے ملاحظہ  
فرما چکے ہیں۔

## باب سوم

# ظہور مہدیؑ کی علامات

حضرت امام مہدی رضوان اللہ علیہ کے ظہور کی تقریباً ۳۰ علامات،  
جن میں سے بعض ایسی ہیں کہ تخلیق کائنات سے لے کر آب تک  
ان کا ظہور نہیں ہوا۔

## ﴿ علامات ظہور مہدی ﴾

ویسے تو حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی بہت سی علامات ہیں جن کے ظہور پر ہر انسان سمجھ جائے گا کہ یہی مہدیؑ موعود ہیں مثلاً امام مہدیؑ سے قبل سفیانی کا خروج وغیرہ۔ جس کی تفصیلات آئندہ آپؐ کے سامنے پیش ہوں گی۔ لیکن یہاں ان میں سے چند ایک ہی کو بیان کیا جائے گا جن میں سے گوکہ بعض سندا ضعیف ہیں پھر بھی اکثر کے شواہد معتبر احادیث سے مل جاتے ہیں۔

### علامت نمبر ۱:

امام مہدی علیہ الرضوان کے پاس حضور ﷺ کی قمیص مبارک اور جھنڈا ہو گا جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی چنانچہ علامہ سید بزرگ تحریر فرماتے ہیں:

﴿ معه قمیص رسول اللہ ﷺ، وسیفہ، ورایته من مرط  
مخملة معلمة سوداء فيها حجر لم تشرمنذ توفی  
رسول اللہ ﷺ، ولا تنشر حتى يخرج المهدی،  
مكتوب على رایته "البيعة لله" ﴾ (الاشاع: ص ۱۹۸)

اس قسم کی ایک حدیث اس سے پہلے بھی کتاب الفتن ص ۲۵۹ کے حوالے سے گزر چکی ہے، نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب آثار القیامہ فی نجح الکرامہ میں اس عبارت کا فارسی میں یوں ترجمہ کیا ہے:

”واما علاماتے کہ شناختہ شود باہمہ مہدی موعود علیہ السلام پس از انجملہ آئست کہ باوے قمیص وسیف ورایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باشد و منتشر نشد ایک رایت از وفاتی و علیہ وسلم ونشود تا آنکہ بیرون آید مہدی، و مکتب باشد بروے این لفظ ”البيعة لله““  
(آثار القیامہ: ص ۳۶۵)

”امام مہدیؑ کے پاس حضور ﷺ کی قیص مبارک، تواریخ مبارک اور سیاہ رنگ کا ریشمی روئیں دار جھنڈا ہو گا اور وہ جھنڈا (کسی روحاںی) بندش کی وجہ سے حضور ﷺ کی وفات سے لے کر ظہور مہدی سے قبل نہیں پھیلایا (ہلایا) جا سکا ہو گا، اور اس جھنڈے پر یہ الفاظ لکھے ہوں گے ”البیهقی اللہ۔“

### علامت نمبر ۲:

اسی طرح حضرت امام مہدیؑ کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ گلن ہو گا جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہو گی:  
 ﴿هذا المهدی خليفة الله فاتبعوه﴾  
 ”یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ہذا ان کی اتباع کرو۔“  
 اور اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلے گا جو امام مہدیؑ کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہی مہدی ہیں، ان کی بیعت کرو۔ (الاشاعر: ص ۱۹۸)  
 اور کتاب المعن میں اسی سے متعلق ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں (کہ آسمان سے نداء اس طرح آئے گی)

﴿عليكم بفلان وتطلع كف تشير﴾ (کتاب المعن: ص ۲۳۶)  
 ”تم پر فلائیں کی اتباع لازم ہے اور اس کی تثاندی کے لیے ایک ہاتھ ظاہر ہو گا جو ان کی طرف اشارہ کرتا ہو گا۔“

جگہ نواب صدیق حسن خان نے خطیب اور ابو نعیم کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کرتے ہوئے کہا ہے:

”و در روایت آمدہ کہ فرشتہ باشد بر سروے و ندا کند کہ ہذا خلیفۃ اللہ المهدی فاسمعوا و اطیعوه۔“ (آثار القیام: ص ۳۶۶)

”اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدیؑ کے سر پر (بادل کی

طرح) ایک فرشتہ ہو گا جو یہ نداء کرتا ہو گا کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں لہذا ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔“

### علامت نمبر ۳۔۲:

امام مہدی علیہ الرضوان کی شناخت کے لیے حضرت علیؑ سے مردی ہے کہ امام مہدی ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا اور ایک درخت سے ایک شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سر بیز ہو کر برگ و بالانے لگے گی۔ (آثار القیامہ: ص ۳۶۶)

سید بربجی نے بھی اس علامت کو ذکر کیا ہے لیکن ان کے بیان سے یہ دو الگ الگ علاقوں میں ثابت ہوتی ہیں چنانچہ مندرجہ ذیل عبارت میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

﴿وَمِنْهَا أَنَّهُ بَغْرِسٍ قَضِيَا يَا بَسَافِيْ إِرْضَى يَابَاسَةً  
فِيْخَضْرُوْبِورَقٍ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَطْلَبُ مِنْهُ آيَةً فَيُؤْمِنُ بِيَدِهِ الْيَى  
طَيْرٍ فِيْهِوَاء فَيَسْقُطُ عَلَى يَدِهِ﴾ (الاشاعر: ص ۱۹۸)

”اور ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مہدی ایک خشک بانس خشک زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سر بیز ہو کر برگ و بالانے لگے گا اور ایک علامت یہ ہے کہ مہدی نے نشان کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے فضاء میں اڑتے ہوئے ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ ان کے سامنے آ گرے گا۔“

### علامت نمبر ۵:

حضرت امام مہدیؑ کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہو گی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہو گا اور جب وہ لشکر کمک اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا جیسا کہ عنقریب بالتفصیل آتا ہے۔

مقام بیداء میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں۔ حوالہ کے لیے ملاحظہ ہو۔

(مسلم شریف: حدیث نمبر ۷۲۳۰، ۷۲۳۳، ۷۲۳۴، ابن ماجہ: حدیث نمبر ۲۳۰۶۵)

### فائدہ:

سفیانی اور اس کے لشکر کے متعلق آپ پوری تفصیلات عنقریب پڑھیں گے کہ وہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہو گا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہو گا لیکن یہ فتنہ زیادہ دریتک نہیں رہے گا کیونکہ "لکل فرعون موسیٰ" کے تحت حضرت امام مہدیؑ کا ظہور ہو چکا ہو گا جس کی علامت یہ ہو گی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے مغرب سے روانہ ہو گا لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت "بیداء" نامی جگہ، جو حرمین کے درمیان ہے، پہنچ گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد اور لیں کاندھلویؒ تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَهَذِهِ هِيَ فَتْنَةُ امَارَةِ السَّفِيَانِيِّ احْدِي عَلَامَاتِ خَرُوجِ﴾

المهدی و قد وردت فيه احادیث كثيرة متواترة المعنى﴾

(اعلین الصیغ: ج ۶ ص ۲۰۰)

"اس لشکر کا زمین میں دھنسا فتنہ سفیانی کی نشانی ہو گی اور سفیانی کا

خروج دراصل امام مہدیؑ کے ظہور کی علامت ہو گا اور اس سلسلے میں

بہت کی احادیث تو اتر معنوی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔"

اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر

کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا چنانچہ حضرت کاندھلویؒ ہی تحریر فرماتے ہیں:

﴿فَلَا يَنْجُو مِنْهُمْ إِلَّا الْمُخْبَرُ عَنْهُمْ﴾

(اعلین الصیغ: ج ۶ ص ۲۰۰)

‘ان تمام لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔’

لیکن اس روایت پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں خروج سفیانی کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مغرب سے خروج کرے گا جبکہ طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں حضرت امام جیبؓ سے اس سلسلے کی روایت ذکر کی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ وہ شرق سے خروج کرے گا اور یہ بظاہر تضاد ہے۔

سید بربز نجیؓ نے اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی تاویل یوں کی جاسکتی ہے کہ سفیانی کی طرف سے بھیجا جانے والا شکر روانہ تو عراق (مغرب) سے ہو گا لیکن چونکہ اس شکر میں اہل شام بھی ہوں گے اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض مقامات پر اس شکر کو شای (شرقی) کہہ دیا گیا ہے۔ (الاشاعر: ص ۲۰۸) اور حضرت کاندھلویؓ نے بھی تعلین الصیح ج ۶ ص ۲۰۱ پر تقریباً یہی تحریر فرمایا ہے۔

یہی نہیں کہ امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہو گا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرہ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفرہ بستی سے مٹانے کے لیے کفر و پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزمائی ہو گا اور چہار اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خاتمة کعبہ پر حملہ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدیؑ کا ظہور ہو جائے گا۔

## علامت نمبر ۶:

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی ایک اور علامت جوان کی تائید کے لیے بطور مہر تصدیق کے ظاہر کی جائے گی اور ان کی شناخت میں کسی کو کوئی شبہ اور تردید نہیں رہے گا، یہ ہو گی کہ آسمان سے ایک منادی امام مہدیؑ کا نام لے کر لوگوں کو ان کے ساتھ جا ملنے اور ان کی مدد کرنے کی طرف ابھارے گا۔ چنانچہ سید بربز نجیؓ تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنادِي مَنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَطَعَ عَنْكُمُ الْجَارِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالشَّيَاعِهِمْ، وَوَلَا كُمْ خَيْرٌ أَمَّةٌ مُّحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَالْحَقُّو بِمَكَّةَ فَانَّهُ الْمَهْدِيُّ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي رِوَايَةٍ، وَوَلَا كُمْ الْجَابِرُ خَيْرٌ أَمَّةٌ مُّحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، الْحَقُّو بِمَكَّةَ فَانَّهُ الْمَهْدِيُّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ﴾ (الأشاعر: ص ۱۹۸، ج ۲۰۹)

”اور ان علمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ اے لوگو! (تمہیں خوبخبری ہو کہ) اللہ نے ظالموں، منافقوں اور ان سے محبت رکھنے والوں سے تمہیں نجات دی اور امت محمدیہ کا بہترین فرد تم پر امیر مقرر کیا الہذا اب تم مکہ مکرمہ جا کر اس سے مل جاؤ، وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبد اللہ ہے اور ایک روایت میں ان کا نام محمد بن عبد اللہ مذکور ہے۔“

اس علمت کو نواب صدیق حسن خان نے بھی آثار القیامہ ص ۳۶۶ پر ذکر کیا ہے لیکن اس میں امام مہدیؑ کے نام سے متعلق ”احمد بن عبد اللہ“ والی روایت کا ذکر نہیں کیا بلکہ ”محمد بن عبد اللہ“ والی روایت پر ہی جزم ظاہر کیا ہے اور یہی مشہور بھی ہے۔

### علامت نمبر ۷:

زمین سونے کے ستونوں کی طرح اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال دے گی۔

(الأشاعر: ص ۱۹۸، آثار القیامہ: ص ۳۶۶، ترمذی ۲۲۰۸)

سید بزرگی نے اس مقام پر ”سونے کے ستونوں“ کا ذکر کیا ہے جبکہ اپنی اسی کتاب کے ص ۲۳۱ پر ”سونے اور چاندی کے ستونوں“ کا ذکر کیا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مردی روایت میں ”سونے اور چاندی کے ستونوں“ ہی کا ذکر ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ أَنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ تَمَّ، وَإِنَّهُ  
صَائِرًا إِلَى النَّقْصَانِ وَإِنَّ امْرَأَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنْ تَقْطَعَ  
الْأَرْحَامَ، وَيُوْخَذُ الْمَالُ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَتُسْفَكُ الدَّمَاءُ،  
وَيُشْتَكَى ذُو الْقَرَابَةِ. قَرَابَتِهِ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ بَشَّىٰ. وَيُطْوَفُ  
السَّائِلُ لَا يَوْضُعُ فِي يَدِهِ شَتِّىٰ فِيمَا هُمْ كَذَلِكَ أَذْ  
خَارَتُ الْأَرْضُ خَوَارُ الْبَقَرِ يَحْسَبُ كُلُّ اِنْسَانٍ أَنَّهَا خَارَتُ  
مِنْ قَبْلِهِمْ فِيمَا النَّاسُ كَذَلِكَ أَذْقَدَتُ الْأَرْضَ بِأَفْلَادِ  
كَبِدِهَا مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفَضْلَةِ لَا يَنْفَعُ بَعْدَ شَىءٍ مِنْهُ لَا ذَهَبٌ  
وَلَا فَضْلَةٌ﴾ (الأشعاع: ص ۲۳۱)

”حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو چکا اور اب  
یہ نقصان کی طرف جائے گا جس کی علامت یہ ہو گی کہ قطع رحمی،  
لوگوں کا مال ناحق لے لینا اور خون بہانا عام ہو جائے گا، قربات دار  
بیکار ہو گا لیکن کوئی اس کی عیادت کرنے نہ جائے گا، سائل بار بار  
چکر لگائے گا لیکن کوئی اس کے ہاتھ پر کچھ نہ رکھے گا۔ اس دوران  
زمین سے گائے کی آواز کی طرح آواز نکلے گی، تمام لوگ اس سوچ  
میں پڑ جائیں گے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ اسی اثناء میں  
زمین اپنے جگر کے نکرے یعنی ”سونے چاندی کے ستون“ نکال باہر  
پھیٹکے گی لیکن اب یہ سونا چاندی کسی کو کچھ نفع نہ دے گا۔“

### علامت نمبر ۸:

لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہیر  
کرے گی (جیسا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کی سیرت کے بیان میں گزرا)

## علامت نمبر ۹:

امام مہدیؑ خانہ کعبہ میں مدفن خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ (الاشاعت: ص ۱۹۹) اور خانہ کعبہ کے اس مدفن خزانے کو، جو امام مہدیؑ تقسیم فرمائیں گے، ”رتاج الکعبۃ“ کہا جاتا ہے۔ (آثار القیام: ص ۳۶۶)

## علامت نمبر ۱۰:

حضرت امام مہدیؑ کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے جس کی وجہ یہ ہو گی کہ امام مہدیؑ کو تابوت سکینہ (جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی باس طور آیا ہے۔ ”وقال لهم نبيهم ان آية ملکه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم“ (البقرة: ۲۲۸) مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدیؑ کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے چنانچہ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

”واز انجلہ آنکہ تابوت سکینہ را از غار انطا کیہ یا از بحیرہ طبریہ بر آورده در بیت المقدس نہد و یہود بدیدن وے مسلمان شوند اللہ انقلیل منہم“، (آثار القیام: ص ۳۶۶) یہی بات (الاشاعت: ص ۱۹۹) پر بھی ہے۔“

”منجملہ ان علامات کے ایک علامت یہ بھی ہے کہ امام مہدیؑ تابوت سکینہ کو انطا کیہ کے کسی غار یا بحیرہ طبریہ سے نکال کر بیت المقدس میں رکھ دیں گے جس کو دیکھ کر سوائے چند ایک کے باقی سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔“

## علامت نمبر ۱۱:

قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کا پھٹ کر بارہ

ہمارے راستے بنا صراحت مذکور ہے جس کو ”انفلاتِ بحر“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اسی طرح حضرت امام مهدیؑ کے زمانے میں انفلاتِ بحر ہو گا جیسا کہ اس کی تفصیلات آگے آرہی ہیں۔  
(الاشاعر: ص ۱۹۹)

### علامت نمبر ۱۲:

مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا (ظاہر ہے کہ جھنڈے لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں) اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہو گا چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ:

﴿علماء خروج المهدى الوية قبل من المغرب، عليهما﴾

رجل اعرج من کنده ﴿کتاب الفتن: ص ۲۳۰﴾

”امام مهدیؑ کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لکڑا شخص ہو گا۔“

### علامت نمبر ۱۳:

مطر الوراق نے ظہور امام مهدیؑ کی علامت کفر کا پھیل جانا بیان کی ہے۔ چنانچہ نعیم بن حماد روایت کرتے ہیں:

﴿لا يخرج المهدى حتى يكفر بالله جهرة﴾

﴾کتاب الفتن: ص ۲۳۱﴾

”امام مهدیؑ کا ظہور اس وقت تک نہیں ہو گا جب تک کہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے۔“

### علامت نمبر ۱۴:

حضرت امام مهدیؑ کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی

کہ ہر نو میں سے سات افراد قتل ہو جائیں گے چنانچہ ابن سیرینؓ سے نعیم بن حماد نے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے:

﴿لَا يُخْرِجُ الْمَهْدِيَ حَتَّىٰ يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ سَبْعَةً﴾

(کتاب الحقن: ص ۲۳۱)

اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی بایں الفاظ منقول ہے:

﴿لَا يُخْرِجُ الْمَهْدِيَ حَتَّىٰ يُقْتَلَ ثَلَاثَ، وَيَمُوتَ ثَلَاثَ،

وَيَقْنِي ثَلَاثَ﴾ (حولہ بالا)

”امام مهدیؑ کا ظہور نہیں ہو گا یہاں تک کہ ایک تہائی افراد قتل ہو جائیں گے، ایک تہائی اپنی طبعی موت مر جائیں گے اور ایک تہائی باقی بچیں گے۔“

اس کی مزید تفصیلات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی۔ انشاء اللہ۔

### علامت نمبر ۱۵:

ظہور امام مهدیؑ سے قبل لوگوں میں افلاس و تنگدستی اس قدر پھیل جائے گی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لوٹڑی کو اس کے وزن کے برابر غلہ میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا جیسا کہ کتاب الحقن: ص ۲۳۲ پر اس قسم کی روایت موجود ہے۔

### علامت نمبر ۱۶:

حضرت امام مهدی علیہ الرضوان کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہو گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مهدیؑ کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ (بخاری شریف: ۲۲۲۹، مسلم: ۲۹۲) لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت و رسالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور یہ ایسے ہی ہو گا جیسے حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز ادا کی، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیقؓ کی امامت میں تو اپنی

زندگی کی آخری تمام باجماعت نمازیں ادا فرمائیں لیکن اس سے آپ کے منصب نبوت و رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی۔

اور جیسا کہ بیان ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدیؑ کی اقتداء کرنا اس امت کی عند اللہ عزت و شرافت کی دلیل ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات آپ اسی رسالے کے باب ششم میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

### علامت نمبر ۱۷:

حضرت امام مہدیؑ کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق و عادات اور سیرت میں تو حضور ﷺ کے مشابہ ہوں گے ہی، حیله میں بھی کسی قدر مشابہت رکھتے ہوں گے البتہ ان کی زبان میں لکنت ہو گی جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر کبھی کبھی اپنی ران پر ہاتھ مارا کریں گے جیسا کہ بالتفصیل گزرنا، یہاں بھی اس سلسلے کی ایک روایت آپ ملاحظہ فرمائیں، جس کو علامہ سیوطیؓ نے الحاوی للغتوی میں حضرت حدیفہؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿لوله يبق من الدنيا الا يوم واحد لبعث الله رجل ا اسمه﴾

اسمی و خلقہ خلقی یکنی ابا عبد اللہؑ (الحاوی: ج ۲ ص ۷۶)

”اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے تب بھی اللہ ایک آدمی کو بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں سیرے مشابہ ہرگا اور اس کی کنیت ابو عبد اللہ ہو گی۔“

### علامت نمبر ۱۸:

ظهور امام مہدیؑ کی علامت کے طور پر ”دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہو گا۔“ (الاشاعر: ص ۱۹۹)

چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے:

﴿لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب﴾

## يقتل عليه الناس فيقتل تسعة

اعشارهم (الاشاعر: ۲۳۹)

”قيامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی جب تک کہ دریائے فرات  
کا پانی ختم ہو کر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہرنہ ہو جائے۔ لوگ  
اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے اتنا لڑیں گے کہ ہر دس  
میں سے نو آدمی قتل ہو جائیں گے۔“

اس حدیث سے ملتے جلتے الفاظ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں بھی ملتے ہیں۔

چنانچہ بخاری شریف میں یہ حدیث ان الفاظ سے مرودی ہے:  
﴿يُوشِكُ الْفَرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ  
حَضَرَهُ فَلَا يَا خَدْمَنِهِ شَيْنًا﴾ (بخاری شریف: حدیث نمبر ۱۱۶، مسلم

شریف: ۷۲۳، ابو داؤد: ۳۳۱۳، ابن ماجہ: ۳۰۳۲)

نیز اس موضوع کی احادیث آپ مسلم شریف ہی میں مندرجہ ذیل مقامات پر  
بھی دیکھ سکتے ہیں:

- (۱) حدیث نمبر ..... ۷۲۲
- (۲) حدیث نمبر ..... ۷۲۳
- (۳) حدیث نمبر ..... ۷۲۵
- (۴) حدیث نمبر ..... ۷۲۶

ممکن ہے کہ اس سے قبل علامت نمبر ۷ میں زمین سے جو سونے چاندی کے  
ستونوں کا برآمدہ ہونا ذکور ہوا ہے اس سے یہی مراد ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دو الگ الگ  
واقع ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

**علامت نمبر ۱۹:**

حضرت امام مہدی (ع) کے ظہور کی ایک عجیب و غریب عامت جو کہ سائنسی نقطہ نظر

کے بالکل خلاف ہوگی کہ جس سال ان کا ظہور مقدر ہو گا اس کے رمضان کی پہلی رات کو چاند گر ہن، ہو گا اور اسی رمضان کی پندرہ تاریخ کو سورج گر ہن، ہو گا اور یہ دونوں چیزیں تخلیق کائنات سے لے کر اب تک اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوئیں کہ کسی مہینے کی پہلی رات کو چاند گر ہن، ہو پھر اس کی پندرہ تاریخ کو سورج گر ہن، ہو جائے کیونکہ رامنی نقطہ نظر اور جدید فلکیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی مہینے کی ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخوں کے علاوہ چاند گر ہن ممکن نہیں۔

اور اتفاق کی بات ہے کہ اس سال (۱۴۲۳ھ / ۲۰۰۲ء) کے رمضان المبارک میں چاند گر ہن اور سورج گر ہن کا واقعہ پیش آچکا ہے۔ لیکن اس کی نوعیت یہ تھی کہ چاند گر ہن نصف رمضان کو اور سورج گر ہن آخر رمضان کو ہوا اور یہ فلکیات کی رو سے ممکن ہے اور اس سے قبل بھی کئی مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسوف و خسوف ہوا ہے، لیکن مذکورہ بالاعلامت کے طور پر نہ ہونے کی وجہ سے ظہور مہدی کی علامت پوری نہ ہو سکی کیونکہ یہ دونوں علامتیں ایسی ہیں کہ تخلیق کائنات سے لے کر اب تک ان کا ظہور نہیں ہو سکتا چنانچہ علامہ ابن حجر شیخی کی تحریر فرماتے ہیں:

﴿لِمَهْدِيْنَا آيَتَانِ لَمْ تَكُونَا مِنْذَ خَلْقِ اللَّهِ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ، يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لَأَوْلَى لِيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ  
وَتَنْكِسِفُ الشَّمْسَ فِي النِّصْفِ مِنْهُ﴾

(القول الخضر: ج ۵، الاشاع: ج ۹۹، الماوی: ج ۲ ص ۷۸)

اس کا ترجمہ وہی ہے جو اپر ہیان ہو چکا۔

مشہور ماہر فلکیات اور جامعہ اشرفیہ کے سابق شیخ الحدیث مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی اپنی کتاب ”فلکیات جدیدہ“ میں ”سیروس“ کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں:

”قدم ہیئت کے ماہرین نے کسوف و خسوف کے اوقات کے انضباط کے لیے ایک ضابطہ وضع کیا ہے اسے سیروس کہتے ہیں یہ آج تک مسلم و صحیح سمجھا جاتا ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر آج کسوف یا خسوف ہو تو ۳، ۲۵۸۵، ۱۸۴۱ میں کے بعد بالفاظ دیگر ۱۸ سال ۱۱/۱/۳

دن کے بعد پھر اس کا اعادہ ہوگا البتہ سابقہ مقام پر ان کا نظر آنا ضروری نہیں۔ خوف و کوف کی تاخیر کا اوسط ۸ گھنٹے ہے، لہذا تم دو رہ سیروں کے بعد وہ پھر تقریباً انہی مقامات پر نظر آئیں گے۔

(فلکیات جدیدہ: ص ۲۳۷)

یہ ضابطہ لکھنے کے بعد حضرت نے ”خوف قمر کی تشریع“ کا عنوان قائم کر کے تحریر فرمایا ہے کہ:

”سابقہ بیان سے واضح ہوا کہ خوف ایام استقبال یعنی ۱۳، ۱۴، ۱۵“

تاریخوں کے علاوہ ناممکن ہے۔“ (فلکیات جدیدہ: ص ۲۳۸)

بعض حضرات کو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی اس علامت میں تردید پیش آیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے چنانچہ ماہنامہ البلاغ کے شمارہ صفر یالمظفر ۱۴۲۲ھ میں مولانا عمر فاروق لوہاروی کا ایک مضمون ”کیا ظہور مہدی ۲۰۰۳ء میں؟“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے جس میں موصوف نے اس بات کی پر زور اور مدل تردید کی ہے کہ امام مہدیؑ کے ظہور کے لیے ماہ و سن کی تعین درست نہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح تھی۔ لیکن آگے موصوف اس تردید میں ماہرین فلکیات کی رائے پیش کر کے جوبات سمجھے ہیں، درحقیقت اس میں انہیں اشتباه ہوا ہے۔

چنانچہ موصوف فتنی اعتبار سے گہن والی روایت پر تجویز کرنے ہوئے لکھتے ہیں:

”مذکورہ فتنی وجہ کی وجہ سے یہ روایت پایہ اعتبار سے گرفتالی ہے اس لیے ظہور مہدیؑ جیسے اہم مسئلہ کے بیلے اس کو بطور دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے یہ عقیدہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ حضرت مہدیؑ کے وقت میں ایسے گہنوں کا ہونا ضروری ہے اور وہ گہن حضرت مہدیؑ کی علامت ہیں۔“ (البلاغ: ص ۳۶)

موصوف کی یہ عجائب اس قدر واضح ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں اور ان کا یہ مدعہ واضح ہے کہ اس سورج گہن اور چاند گہن کو ظہور مہدیؑ کی علامت نہیں قرار دیا

جا سکتا، حالانکہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدیؑ کے ظہور کے لیے ماہ و نی کی تعین درست نہیں لیکن سرے سے اس علامت کا انکار کر دینا ناروا ہے جو آغاز تخلیق سے لے کر اب تک رونما ہی نہیں ہوئی جیسا کہ یہ بات پیچھے بیان ہوئی اور علامت تو ہوتی ہی خلاف عادت اور خرق عادت کے طور پر ہے۔

### علامت نمبر: ۲۰

صرف یہی نہیں کہ امام مہدیؑ کے ظہور کے وقت چاندگر، ہن ایک مرتبہ ہو گا بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال رمضان کے مہینے میں دو مرتبہ چاندگر، ہن ہو گا، ایک مرتبہ تو رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہو گا اور دوسرا اس کے علاوہ ہو گا اور ایک مہینے میں کئی مرتبہ گر، ہن ہونا جدید فلکیات کی رو سے ناممکن نہیں۔

### علامت نمبر: ۲۱

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کے وقت ایک اور آسمانی علامت کا ظہور ہو گا چنانچہ سید بر زنجی تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْهَا طَلُوعٌ نَّجْمٌ لِهِ ذَنْبٌ يَضْيَأُ﴾ (الاشاعر: ص ۱۹۹)

”اور ان علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک روشن دم دار تارا ظاہر ہو گا“  
حسب بیان سید موصوف اس کا وقوع ہو چکا ہے لیکن ایک دفعہ وقوع سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوبارہ اس کا وقوع نہ ہو گا اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دم دار کوئی الگ نوعیت کا ہو۔

### علامت نمبر: ۲۲

مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ کا تین یا سات راتوں تک مسلسل ظاہر ہنا بھی علامات ظہور مہدی میں شمار کیا گیا ہے۔ (حوالہ بالا)

### علامت نمبر: ۲۳

آسمان پر انتہائی گھنائوپ تاریکی کا چھا جانا۔ (الاشاعر ص ۲۰۰)

### علامت نمبر ۲۴:

آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا اور اس سرخی کا افق پر پھیل جانا۔  
یاد رہے کہ افق کی یہ سرخی عام معمول کی سرخی نہیں ہوگی بلکہ اس سے ہٹ کر ہوگی  
نیز سیاہی اور سرخی کا چھا جانا دوالگ الگ و قتوں میں ہو گا نہ کہ ایک ہی وقت میں۔ (حولہ بالا)

### علامت نمبر ۲۵:

آسمان سے ایک ایسی آواز کا آنا جو تمام اہل زمین سن لیں گے اور عجیب تر  
بات یہ ہوگی کہ وہ آواز ہر زبان والے کو اس کی اپنی زبان میں سنائی دے گی۔ (چنانچہ  
عربی کو عربی میں، پنجابی کو پنجابی میں اور پختہ ان کو پشتومیں، غرضیکہ ہر ایک کو وہ آواز اسی کی  
مادری زبان میں سنائی دے گی اور قدرست خداوندی کے سامنے ایسا ہونا بعید نہیں کیونکہ:  
”ان الله على كل شيء قدير“۔ (بکری مذکورہ)

### علامت نمبر ۲۶:

شام کی ”حرستا“ نامی بستی کو زمین میں دھنادیا جائے گا۔ (حولہ بالا)  
اس مسئلے میں سید برزنجمی نے ابن عساکر کے حوالہ سے ایک روایت بایں الفاظ  
نقل کی ہے:

﴿لا يخرج المهدى حتى يخسف بقرية بالغوفة تسمى

حرستا﴾ (الاشاعر ص ۲۳۱)

”امام مهدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ غوطہ کی  
حرستا نامی بستی زمین میں دھنادی جائے۔“

### علامت نمبر ۲۷:

نفس زکیہ کا قتل بھی نظیرو مهدی کی علامات میں ثمار کیا گیا ہے۔ (الاشاعر ص ۲۳۹)

چنانچہ مجاہد کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی:

﴿إِذَا قُتِلَتِ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ غَضَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ﴾

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَيَا تَمَّى النَّاسُ الْمُهَدَّى فَزَفْرَهُ كَمَا تَزَفَّ

الْعَرْوَسُ إِلَى زَوْجِهَا لِلَّةَ عَرْسَهَا﴾ (بحوالہ مذکورہ)

”جب نفس زکیہ شہید ہو جائیں گے تو ان لوگوں پر آسمان و زمین  
والے غصب ناک ہو جائیں گے، پھر لوگ امام مہدیؑ کے پاس  
آ کر انہیں تیار کریں گے، جیسے دہن کوشب زفاف میں اس کے  
خاوند کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔“

فائدہ:

اگر آپ تاریخ اسلام پر ایک اجمانی نظر ڈالیں تو آپ کو بنو عباس کے زمانہ خلافت میں نفس زکیہ نامی ایک شخص کا حوالہ ملے گا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور ان کا نسب تین واسطوں سے حضرت علیؑ سے جاتا ہے۔ ان کا پورا نام ”محمد انفس الزکیۃ بن عبد اللہ الحسن بن الحسن الحنفی بن الحسن بن علیؑ“ ہے، اہل مدینہ نے ان سے بیعت خلافت لی تھی لیکن یہ خلافت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں موسیٰ بن عیسیٰ نے ان کو شہید کر دیا تھا۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روایات مہدی میں جس نفس زکیہ کا بار بار ذکر آتا ہے اس سے مراد آئندہ پیدا ہونے والے نفس زکیہ ہیں۔ خلیفہ منصور عباسی کے زمانے کے نفس زکیہ مراد نہیں کیونکہ اگر وہی مراد لیے جائیں تو پھر امام مہدیؑ کا ظہور کبھی کا ہو چکا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی نام کے دو الگ شخص ہیں۔

علامت نمبر: ۲۸

خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا آنا۔

اس سلسلے میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے

فرمایا:

﴿يَا تَيْمَةً قَوْمٌ مِنْ قَبْلِ الْمُشْرِقِ وَالْمُشْعَرِ مَعْهُمْ رَأِيَاتٌ سُودٌ فِي سَالَوْنِ  
الْخَيْرِ فَلَا يُعْطَوْنَهُ فِي قَاتِلُونَ فَيُنَصَّرُونَ فَيُعْطَوْنَ مَاسَالَوْنَ  
فَلَا يَقْبِلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلُؤُهَا  
قَسْطًا كَمَا مَلَأُوهَا جُورًا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ

﴿فَلِيَاتُهُمْ وَلَوْ جَبَوْا عَلَى الشَّلْجِ﴾ (الاشاعر: ص ۲۲۰)

”مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ (ضرورت کی وجہ سے) مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آجائیں گے اب وہ لوگ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین رائی طرح عدل و انصاف سے بھردے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و تم سے بھرا ہوا سوتھ میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آجائے اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔“

علامت نمبر: ۲۹

ایک کان کے پاس لوگوں کا ہنس جانا۔

اس سلسلے میں حاکم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مندرجہ ذیل روایت نقل کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

﴿تَخْرُجُ مَعَادِنِ مُخْتَلَفَةٍ، مَعْدِنٌ مُهْلَقٌ قَرْبٌ مِنَ الْحِجَازِ  
يَاتِيهِ شَرَارُ النَّاسِ يُقَالُ لَهُ فَرَعُونٌ فَبِينَمَا هُمْ يَعْمَلُونَ فِيهِ

اذ حسر عن الذهب فاعجبهم معتمله في بينما هم  
كذلك اذ خسف به وبهم۔ ﴿الأشعاع: ص ۲۲۳﴾

”(قیامت کے قریب مختلف علاقوں سے) مختلف (دھاتوں کی) کامیں برآمد ہوں گی، جن میں سے ایک کان حجاز کے قریب بھی ظاہر ہوگی۔ اس کے حصول کے لیے ایک بدترین آدمی جس کا القب (ہی کثرت ظلم و تم کی وجہ سے) فرعون پڑ گیا ہوگا، آئے گا، (اور لوگوں کو اس میں کام کرنے پر لگادے گا) لوگ اس میں کام کر رہے ہوں گے کہ سونے کی ایک اور کان ظاہر ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ ابھی خوش ہی ہو رہے ہوں گے کہ وہ اس کان سمیت زمین میں دھنسا دیئے جائیں گے۔“

### علامت نمبر ۳۰:

ظہور مهدیؑ پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انہائی تیز رفتاری سے گزرنما بھی ہے جس کی وجہ بظاہر وقت میں بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا چنانچہ حضرت سید بزرگؑ فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْهَا طَلُوعُ الْقَرْنِ ذِي السَّنَنِ﴾ (الأشعاع: ص ۲۲۴)  
اور اس کی تائید ترمذی شرینؓ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت اکرم ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا تَقُومُ الْأَيَّامُ حَتَّىٰ يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونُ السَّنَنُ  
كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالجَمْعَةِ وَتَكُونُ الْجَمْعَةُ كَالْيَوْمِ  
وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ﴾

(رواه الترمذی، مکملہ: ص ۲۰)

”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو

جائے (اس تیزی سے نہ گزرنے لگے کہ) سال مہینہ کے برابر،  
مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر اور  
ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلانے کے برابر نہ ہو جائے“  
اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ماعلیٰ قاریٰ نے امام خطابی کا یہ قول نقل  
فرمایا ہے:

﴿قَالَ الْخَطَابِيُّ وَيَكُونُ ذَلِكُ فِي زَمَنِ الْمَهْدِيِّ  
أَوْ عَيْسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ كَلِيمَهَا قَلْتُ وَالْآخِيرُ  
هُوَ الظَّهُورُ وَظَهُورُ هَذَا الْأَمْرِ فِي خَرُوجِ الدِّجَالِ وَهُوَ فِي  
زَمَانِهِمَا﴾ (مرقة الفاتح: ج ۱۰ ص ۱۶۹)

”امام خطابی نے فرمایا ہے کہ ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ یادوں  
کے زمانے میں ہوگا، میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے  
کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا اور دجال کا  
خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا۔“

## باب چہارم

### ظہور مہدیؑ سے قبل کے واقعات

خرونج سفیانی، سفیانی کا نام، حلیہ، کردار،

کیفیت، خرونج، فتنہ فساد پھیلانا۔ وغیرہ

## ﴿ظهور مهدی سے قبل کے واقعات﴾

چونکہ حضرت امام جہدی رضوان اللہ علیہ کا درود مسعود قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے اس لیے ارتباط کی غرض سے ان کے درود سے قبل کے واقعات کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

### خروج سفیانی:

حضرت امام مهدی کے ظہور سے قبل عرب و شام میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا، حسب بیان سید بزرگی یہ شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہوگا۔

(ترجمان النبی: ج ۲۲ ص ۳۷۲، کتاب البرہان ج ۲ ص ۲۳۹ بروایت حضرت علیؑ)

شیخ نعیم بن حماد نے بھی سفیانی کے خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہونے کی روایت نقل کی ہے جس میں اس کا کچھ حلیہ اور کیفیت خروج بھی مذکور ہے۔

”سفیانی، خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہو گا، یہ شخص بھاری بھر کم جسم والا ہوگا، چہرے پر چیپک کے آثار ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا، دمشق کے نواحی علاقوں میں سے ایک وادی سے خروج کرے گا جس کا نام ”وادی یا بس“ ہوگا۔

وہ سات آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ خروج کرے گا، جن میں سے ایک کے پاس ایک جھنڈا بھی ہو گا۔ لوگ اس کے جھنڈے تلتے مدد آنے کا خیال کریں گے اور اس کے آگے آگے تمیں میل چلتے ہوں گے، جو آدمی بھی اس جھنڈے کو سرگنوں کرنا چاہے گا وہ خود ہی شکست سے دوچار ہوگا۔“ (کتاب الحسن: ص ۱۸۹)

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ”ابوسفیان کی اولاد میں سے ایک شخص وادی یا بس میں سرخ جنڈوں کے ساتھ خروج کرے گا جس کے بازو اور پنڈلیاں پتلی ہوں گی، گروں لمبی ہوگی، انہٹائی زرور گہ ہو گا اور اس پر عبادت کے آثار نمایاں ہوں گے۔“  
(کتاب الفتن: ص ۱۹۰)

نیز حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

﴿يَتَحَرَّكُ بَايْلِيَاءُ رَجُلٌ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، فَيَكْثُرُ الْهَرْجُ،  
وَيَحْلُّ النِّسَاءُ وَهُوَ الَّذِي يَبْعَثُ بِجِيشٍ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۹۳)

”ایلیاء میں ایک کانا شخص متحرک ہو گا جو کثرت سے قتنہ پھیلائے گا اور عورتوں کو حلال کروے گا اور یہی مدینہ کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا۔“

### سفیانی کا نام:

سفیانی کے نام کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں چنانچہ مولا ناسید محمد بدر عالم مہاجر مدنی ”نے ترجمان السنۃ میں امام قرطبیؓ کی تذکرہ کے حوالے سے سفیانی کا نام عروہ ذکر کیا ہے جبکہ شیخ نعیم بن حماو نے کتاب الفتن ص ۱۹۱ پر سفیانی کا نام عبد اللہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کتاب مذکور کے ص ۱۸۹ پر سفیانی کا پورا نام عبد اللہ بن یزید ذکر کیا ہے۔

امام قرطبیؓ نے اپنی کتاب تذکرہ کے ص ۲۹۳ پر ابو الحسین احمد بن جعفر بن مناوی کی روایت سے سفیانی کا نام عتبہ بن ہند نقل کیا ہے۔

### سفیانی کی حکومت اور مدت حکومت:

مولانا سید بدر عالم فرماتے ہیں کہ سفیانی کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا (ترجمان السنۃ ج ۲ ص ۳۷۲) اور اس کی مدت حکومت کے بارے میں ایک

روایت یہ ہے کہ سفیانی ساڑھے تین سال حکومت کرے گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی مدت حکومت ۱۹ ماہ یا کے ۱۸ ماہ ہوگی۔ (کتاب الفتن: ص ۱۸۸)

سفیانی کی بیعت کرنے والے اہل شام ہوں گے (یاد رہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل خروج سفیانی ہو گا، اس سفیانی کے خروج سے پہلے ایک اور شخص خروج کرے گا اور اتفاق سے اس کا نام بھی سفیانی ہی ہو گا چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ سفیانی نام کے تین افراد ہوں گے جن میں سب سے آخری امام مہدیؒ کے ظہور سے قبل خروج کرے گا یہاں اس آخری سفیانی سے پہلے والا سفیانی مراد ہے۔) سفیانی ان کو لے کر اہل مشرق سے قاتل کرے گا اور ان کو فلسطین سے دھکیلتا ہوا مر ج صفر، جو کہ دمشق کے جنوب میں واقع ہے، تک جا پہنچے گا، وہاں پہنچ کر دوبارہ جنگ ہوگی جس میں اہل مشرق شکست کھا کر پسپا ہوتے ہوئے مر ج الشیۃ (ثنتیۃ العقاب) تک جا پہنچیں گے، وہاں مجتمع ہو کر پھر سفیانی سے لڑیں گے اور حسب سابق شکست کھا کر حمص کے قریب "حص" نامی جگہ پہنچیں گے، وہاں پھر جنگ ہوگی اور اہل مشرق قریباً آپس پہنچیں گے، اس کے بعد وہ بغداد کے قریب "عاقر قوفا" نامی بستی پہنچ کر آخری فیصلہ کن معرکہ پا کریں گے لیکن وہ اس میں بھی شکست کھا جائیں گے اور سفیانی ان لوگوں کے اموال کو جمع کر کے مال غنیمت بنالے گا۔ اس کے بعد سفیانی کے طبق میں ایک پھوٹا نکلے گا اور وہ صحیح کے وقت کوفہ میں داخل ہو کر شام کو اپنے لشکروں سمیت واپس روانہ ہو جائے گا اور شام کے قریب پہنچ کر راستے میں ہی اس کی وفات ہو جائے گی۔ ادھر جب اہل شام کو سفیانی کی موت کی خبر معلوم ہوگی تو وہ بغاوت کر دیں گے اور بنو کلب کے ایک شخص عبد اللہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس کی دونوں آنکھیں اندر کو دھنسی ہوں گی اور انہیلی بد شکل ہو گا جبکہ اہل مشرق سفیانی کی موت کی خبر سن کر کہیں گے کہ اب اہل شام کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ نئے امیر کی اطاعت سے انکار کر کے با غی ہو جائیں گے، عبد اللہ بن یزید (سفیانی) کو معلوم ہو گا تو وہ اپنے سارے لشکروں کو لے کر ان پر چڑھ دوڑے گا اور ان سے خوب قاتل کرے گا حتیٰ کہ اہل مشرق شکست کھا کر کو فہ میں داخل

ہو جائیں گے اور سفیانی ان میں سے لڑنے والوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قید کریا گا اور کوفہ کو بر باد کر دے گا۔ اس کے بعد حجاز کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا۔“

(کتاب الحفن: ص ۲۰۲، ۲۰۳)

### فتنه سفیانی کی سختی:

سفیانی کا فتنہ اس قدر سخت ہو گا کہ ایک حدیث میں ہے:

”حضور ﷺ نے فرمایا ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص اسلام میں ایسا سوراخ کھول دے گا کہ پھر اس کو بند نہیں کیا جاسکے گا۔“

نیز حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”دوین کا یہ امر ثہیک ثہیک چلتا رہے گا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس کا مثلہ بنو امیہ کا ایک شخص کرے گا۔“ (کتاب الحفن: ص ۱۸۹)

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ:

”بنو ہاشم میں سے ایک شخص حکمران بن جائے گا اور وہ بنو امیہ کو قتل کرے گا چنانچہ بنو امیہ میں سے صرف چند افراد ہی قتل ہونے سے بچیں گے، پھر بنو امیہ کا ایک شخص ”سفیانی“ نکلے گا اور وہ بنو ہاشم کے دو آدمیوں کو اس ایک آدمی کے بد لے قتل کرے گا جس کو بنو ہاشم نے قتل کیا ہوگا (ایک آدمی کے بد لے میں دو قتل کرے گا۔) یہاں تک کہ صرف عورتیں بچیں گی۔ اس کے بعد امام مہدیؑ کا ظہور ہو جائے گا۔“ (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۲۲۲)

نیز ایک روایت میں ہے کہ:

”سفیانی اس حال میں خروج کرے گا کہ اس کے پاس بانس کی تین لکڑیاں ہوں گی، وہ جس کو بھی ان لکڑیوں سے مارے گا وہ مر

جائے گا۔” (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۶۵۳)

## خروج سفیانی کی کیفیت:

ایک روایت میں خروج سفیانی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے:

”سفیانی کو خواب دکھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو، وہ اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا لیکن اپنی موافقت میں کسی کو نہ پائے گا، دوبارہ اسی طرح اس کو خواب آئے گا، پھر تیری مرتبہ اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو اور دیکھو کہ تمہارے گھر کے دروازے پر کون ہے؟ چنانچہ وہ اٹھ کر دیکھے گا تو اس مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر سات یا نو افراد کو پائے گا جن کے پاس جھنڈے ہوں گے اور وہ اس سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں (اس لیے تم ہمیں اپنا ہی سمجھو اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں) چنانچہ وہ ان کے ساتھ خروج کرے گا اور وادی یا بس کی بستیوں میں سے کچھ لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ان کی سرکوبی اور ان سے جنگ کرنے کے لیے دمشق کا گورنر و ائمہ ہو گا لیکن جوں ہی اس کی نظر سفیانی کے جھنڈے پر پڑے گی وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہو گا، ان دونوں دمشق کا گورنر بنو عباس کی طرف سے مقرر ہو گا۔“ (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۶۵۵)

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ:

”سفیانی بدترین بادشاہ ہو گا کہ علماء اور فضلاء کو قتل کرے گا اور ان کو فنا کے گھاث اتار دے گا، نیز وہ ان سے اپنی مدد کا مطالبہ کرے گا اور ان کا رکنے پر ان کو قتل کر دے گا۔“

یہ چند روایات بطور نمونہ کے پیش کی گئی ہیں جن میں سفیانی کے حالات کا بقدر

ضرورت تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کا نام، طبلہ، کردار اور خروج کی کیفیت کیا ہو گی؟ اس سلسلے میں امام قربی نے اپنی کتاب تذکرہ میں سفیانی کے متعلق یہ روایت بھی ذکر کی ہے۔

”سفیانی کی مکمل تفصیلات ابو الحسین احمد بن جعفر بن مناوی نے اپنی

کتاب ”الملاحم“ میں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ سفیانی کا نام عتبہ بن

ہند ہو گا اور یہ اہل دمشق کے درمیان کھڑا ہو کر کہہ گا کہ میں تم ہی میں

کا ایک فرد ہوں، میرے دادا معاویہ بن ابی سفیان اس سے پہلے

تمہارے ولی امر رہ چکے ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک

کیا اور تم نے ان کی خوب اطاعت کی۔ پھر ابو الحسین نے ایک طویل

کلام ذکر کیا یہاں تک کہ ایک جرمی کی طرف سفیانی کے بھیجے ہوئے

خط کا تذکرہ کیا جو سر زمین شام میں رہتا ہو گا، اسی طرح بر قی کے خط کا

جو کہ بر قی کی سرحد کے ساتھ مغرب میں رہتا ہو گا، ابو الحسین نے

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پھر جرمی آ کر سفیانی سے

بیعت کرے گا اور اس جرمی کا نام عقیل بن عقال ہو گا، اس کے بعد

بر قی شخص آئے گا جس کا نام ہمام بن الورد ہو گا (روایت میں اس کے

بیعت کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔) پھر ابو الحسین نے سفیانی کے ملک

مصر جانے اور وہاں کے بادشاہ سے جنگ کرنے کا تذکرہ کیا کہ وہ فرمایا

کہ مل پر یا اس سے کچھ پیچھے سات دن تک برابران لوگوں کو تہہ تبغیث کرے گا حتیٰ کہ اہل مصر کے ستر ہزار افراد قتل ہو جائیں گے۔ پھر اہل

مصر تھک ہا کر اس سے صلح کر لیں گے اور اس کی بیعت میں داخل ہو

جائیں گے اور سفیانی شام واپس آ جائے گا۔“ (تذکرہ للقرطبی ص: ۲۹۳)

روایات کے اس تناظر میں اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امام مہدی علیہ

الرضوان کے ظہور سے قبل اسلام اور مسلمان سخت تکالیف میں بنتا ہوں گے، ان پر ظلم و تم

کے پھاڑ توڑے جائیں گے اور ان کو جائے پناہ کا ملنا مشکل ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر مومنین کی مدد کرنا لازم کر رکھا ہے۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:

﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ۲۷)

تنبیہ: یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ لزوم کی دو قسمیں ہیں:

(۱) لزوم اتحقاقی      (۲) لزوم تفصیلی

**لزوم اتحقاقی:**

ایک چیز کسی پر اس طرح لازم ہو کہ وہ غیر کا حق ہو۔

**لزوم تفصیلی:**

ایک چیز کسی پر اس طرح لازم ہو کہ وہ غیر کا حق نہ ہو بلکہ اس نے مہربانی کر کے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے وہ لزوم تفصیلی کے طور پر ہے نہ کہ لزوم اتحقاقی کے طور پر۔

**الغرض!** سفیانی کے خروج کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہے گی، اس کی تفصیلات بھی قرطبی کی مذکورہ روایت ہی میں موجود ہیں اور وہ یہ کہ:

”ابو الحسن نے سفیانی کے واقعہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بہت

سے عجائبات کا ذکر کر کیا ہے نیز اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے

لشکر کو زمین اس طرح نگل لے گی کہ ان کے سر تو زمین سے باہر

ہوں گے اور گردن تک کا سارا جسم زمین میں ڈھنس جائے گا اور ان

کا تمام مال و دولت، خزانہ اور قیدی سب اپنی حالت پر ہوں گے،

یہ خبر گورنر مکہ کو پہنچے گی جس کا نام محمد بن علی ہو گا اور وہ السبط الاعظم

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہو گا، جب وہ مکہ

سے کوچ کا ارادہ کر کے روانہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے زمین کی  
دوریوں کو ہٹا کر گویا زمین کو لپیٹ دیں گے اور وہ اسی دن اس  
بیان میں جا پہنچے گا جہاں سفیانی کا شکر مذکورہ بدترین صورت  
حال سے دوچار ہوگا چنانچہ محمد بن علی اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی  
حمد و ثناء کریں گے اور تسبیح و تحمید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تمام عافیت  
ونعمت کا سوال کریں گے۔“ (لذ ذکرہ ص: ۶۹۵)

### سفیانی کا جھنڈا:

آخر زمانے میں اختلافات کی کثرت ہو گی، قیامت قریب آچکی ہو گی اور  
سفیانی کا خروج ہو چکا ہوگا جس کی علامت یہ ہو گی کہ بقول محمد بن حنفیہ اختلافات کے  
وقت شام میں تین جھنڈے بلند کیے جائیں گے، ایک جھنڈا ابیق نامی شخص کا ہوگا، دوسرا  
جھنڈا اصحاب نامی شخص کا ہوگا اور تیسرا جھنڈا سفیانی کا ہوگا۔ (کتاب الحسن: ص: ۱۹۶)  
اور ایک روایت میں ہے کہ ان تینوں میں سے سفیانی غالب آجائے گا چنانچہ  
مردی ہے کہ:

”جب لوگوں میں اختلافات بڑھ جائیں گے تو کچھ وقت گزرنے  
کے بعد مصر میں ابیق نامی ایک شخص ظاہر ہوگا، وہ لوگوں کو قتل کرتے  
ہوئے ”ارم“ تک جا پہنچے گا پھر اس پر ایک بدشکل شخص حملہ کر دے گا  
چنانچہ ان دونوں کے درمیان سخت جنگ ہو گی اسی اثناء میں ملعون  
سفیانی کا ظہور ہو جائے گا اور وہ ان دونوں پر غالب آجائے گا۔“

(بحوالہ مذکورہ)

اور ایک روایت میں ہے کہ:

”سفیانی مصر جا کر چار ماہ قیام کرے گا اور مصر میں قتل و غارت گری

کا بازار گرم کر دے گا اور لوگوں کو قیدی بنالے گا۔” (حوالہ مذکورہ)

## ﴿خروج سفیانی کا اجمامی نقشہ ﴾

علامہ ابن حجر یعنی مکیؒ نے اپنی کتاب ”القول الختقر فی علامات المهدی المختصر“ میں خروج سفیانی کی تفصیلات کا ایک نہایت اچھا اور جامع خلاصہ تحریر فرمایا ہے، یہاں اس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔

”امام مهدیؒ کے ظہور سے پہلے ۳۶۰ سواروں کے ساتھ سفیانی کا خروج ہو گا، اس کے بعد اس کے تخیال بونکلب کے تیس ہزار افراد اس کے قبیع ہو جائیں گے اور وہ عراق پر حملہ کے لیے اپنے لشکر کو روانہ کر دے گا جو مقام زوراء (ایک مشرقی شہر) میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دے گا پھر اس کے لشکری کوفہ پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں گے (ادھر تو یہ ہورہا ہو گا اور ادھر) مشرق کی طرف سے ایک جنہڈا ظاہر ہو گا جس کی قیادت بن قیم کے شعیب بن صالح نامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہو گی اور وہ قیدی کوئیوں کو آزاد کرائے گا اور سفیانی کے لشکریوں سے جنگ کرے گا، سفیانی اپنا دوسرا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بیسیجے گا۔ وہاں بھی اس کے لشکری تین دن تک لوٹ مار کرتے رہیں گے پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور جب بیداء نابی جگہ پر پہنچیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم خداوندی ہو گا اور وہ اپنا پاؤں ان پر ماریں گے جس کی وجہ سے پورا لشکر زمین میں ہنس جائے گا اور صرف دو آدمی بچپیں گے۔

وہ دونوں سفیانی کو آ کر اس ہولناک داقعے کی خبر دیں گے لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو گا، پھر وہ باوشاؤ روم کے پاس پیغام بھیجے گا کہ میرے پاس ان دونوں سواروں کو بھیج دو جو قسطنطینیہ

بھاگ گئے ہیں، وہ ان کو واپس بھیج دے گا تو وہ جرم فرار کی سزا میں  
دشمن کے دروازے پر ان کی گرد نیں مار دے گا اور جامع مسجد دشمن  
کے محراب میں اپنی ران پر ایک عورت کو بٹھائے گا اور جو اس پر  
ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا، اس کو بھی قتل کر دے گا۔

اس وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ اے لوگو! اللہ  
تعالیٰ نے تم سے طالمou، منافقوں اور ان کے ہمنواوں کو دور کر  
کے تم پر امت محمدیہ کے ایک بہترین فرد کو امیر بنایا ہے چنانچہ تم اس  
سے مکہ میں جا کر طو، وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبد اللہ  
ہے.....”<sup>۱</sup> (القول الختنی علامات المهدی المختار ص: ۳۰)

### فائدہ:

اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اگرچہ محدثانہ انداز سے روایات ظہور مہدیؑ و  
خروج سفیانی پر بحث کرنا اس وقت موضوعِ خن نہیں لیکن یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ  
امام مہدی کا ظہور اور خروج سفیانی وغیرہ صرف صحیح روایات سے ثابت نہیں بلکہ ان میں صحیح،  
حسن اور ضعیف وغیرہ تمام روایات شامل ہیں حتیٰ کہ اس میں موضوع روایات بھی موجود ہیں۔  
البتہ ان روایات کا مضمون اور ظہور مہدیؑ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار  
نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ آپ ”ظہور مہدیؑ“ کے متعلق عقیدے کی بحث ”میں تفصیل کے  
ساتھ پڑھائے ہیں۔

نیز امام مہدی رضوان اللہ علیہ کے متعلق مندرجہ ذیل نکات بھی ذہن میں رکھنا

ضروری ہیں:

- (۱) امام مہدیؑ کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نیز ظہور  
مہدیؑ اور خود امام مہدیؑ ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں  
کریں گے۔ البتہ وہ احیاء سنت اور امانت بدعت کی طرف خوب متوجہ ہوں گے۔
- (۲) امام مہدیؑ نبی نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ معصوم ہوں گے، نیز وہ خود بھی اپنی

نبوت کے مدعا نہیں ہوں گے۔

(۳) ظہور مہدیؒ کے وقت امام مہدیؒ کو مانتا، ان کی بیعت و معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہوگا بلکہ اس کے مطابق ہوگا۔

(۴) امام مہدیؒ اپنے وقت موعود پر پیدا ہوں گے اور عام معقول کے مطابق ان کی نشوونما اور دینی ماحول کی تربیت ہوگی اور جس وقت اللہ کو متظور ہوگا اس وقت ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی وہی صلاحیتیں ان میں ودیعت فرمادیں گے کہ وہ لوگوں کی قیادت کر سکیں اور پھر ان کا "امام مہدیؒ" کے عنوان سے ظہور ہوگا۔

## باب پنجم


**ظہور مہدیؑ ترتیب زمانی کے  
ساتھ واقعات کے تناظر میں**


جنگیں، امام مہدیؑ، کی تلاش، بیعت و خطبہ اولی،  
 استحکام اسلام، پوری دنیا، کی حکمرانی، خروج دجال، نزول عیسیٰ  
 وفات مہدیؑ اور ان کی مدت حکومت وغیرہ

﴿ ظہور مہدیؑ ترتیب زمانی کے ساتھ ﴾

## واقعات کے تناظر میں ﴿﴾

گذشتہ صفحات میں بیان شدہ تفصیلات کا خلاصہ یہ تکا کہ آخرزمانے میں امام مہدی رضوان اللہ علیہ کاظہور برحق ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبد اللہ ہو گا، ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہو کر حضور ﷺ سے جاتے گا، ان کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ میں ہو گی، ان کی سیرت و اخلاق کریمانہ، حلیہ مبارک، بوقت ظہور علامات اور قبل از ظہور واقعات آپ بالتفصیل پڑھ چکے، اب آپ اس کو واقعات کے تسلیل کے ساتھ پڑھیں تو اس سے انشاء اللہ ایک نیالطف حاصل ہو گا۔

لیکن یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ واقعات کی اس ترتیب سے ظہور مہدیؑ کے لیے ماہ و سن کی تھیں قطعاً نار و اور غلط ہے اور اس مضمون کے مقصد کے خلاف ہے۔

دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو گا:

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، لوگوں کو جب اس کی خبر ہو گی تو وہ اس کے حصول کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں تین آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے اور دریائے فرات پر سونے کے اس پہاڑ کے حصول کے لیے یہ تینوں باہم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے، ان تینوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفہ یا بادشاہ کا بیٹا ہو گا، ان تینوں کے لشکروں کے درمیان اس قدر شدید قتال ہو گا کہ ہر سو میں سے ننانوے افراد قتل ہو جائیں گے۔

اور صحیحین کی روایت میں اس موقع پر امت محمدیہ کے لیے بارگاہ بنت سے یہ بہایت نامہ موجود ہے کہ جو شخص اس موقع پر حاضر ہو، وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے۔

(بخاری ۱۱۹، مسلم ۲۷۳، ابو داؤد ۳۱۳، ابن ماجہ ۳۳۶)

اس قسم کی مزید روایات شیخ علی متقی ہندیؒ کی کتاب البرہان ج ۲ ص ۲۳۲ تا ص ۲۳۳ ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام مهدیؒ کے ظہور سے قبل دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہو گا چنانچہ اس کے لیے حدیث میں "یَخْسِرَ" کا لفظ ہے جس کی شرح میں امام نوویؒ تحریر فرماتے ہیں:

(پوشک الفرات ان يحسر ای ینکشف لذهاب مانہ)

(شرح سلم: ۱۸-۱۹)

"اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دریائے فرات پانی خشک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو جائے گا۔"

امام مهدیؒ کے ظہور کی انتہائی قریبی علامت یہ ہو گی کہ سفیانی کا خروج ہو جائے گا جس کے بارے میں اس سے قبل تفصیلات بیان ہو چکیں تاہم واقعات کے تسلیم کو برقرار رکھنے کے لیے علامہ سید برزنجمیؒ کا بیان پڑھ لیجئے جو انہوں نے اپنی کتاب الاشاعہ کے ص ۲۰۲ پر تحریر فرمایا ہے۔

سفیانی کی ایقون اور اصحاب وغیرہ سے جنگ:

سفیانی کا خروج دمشق کی ایک وادی سے ہو گا جس کا نام وادیٰ یابس ہو گا..... پھر "علامہ خروجہ" کے تحت فرماتے ہیں کہ سفیانی کے خروج کی علامت یہ ہو گی کہ دمشق کی ایک بستی، جس کا نام شاید "حرستا" ہو گا، کوز میں میں دھنسا دیا جائے گا اور دمشق کی جامع مسجد کی مغربی جانب گر جائے گی۔

اور مصر سے ایقون کا، جزیرہ عرب سے اصحاب کا اور شام سے سفیانی کا خروج ہو گا۔ نیز مغرب کی طرف سے اعرج کندی کا خروج ہو گا، ان سب کے درمیان پورے ایک سال تک جنگ ہوتی رہے گی اور بالآخر سفیانی، ایقون اور اصحاب پر غالب آجائے گا اور اعرج کندی واپس بھاگ جائے گا اور راستے میں مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو قیدی بنा

لے گا پھر وہ جزیرہ العرب میں پہنچے گا تو وہاں سفیانی قیس نای شخص سے نہ رہ آزمائہ گا اور آخر الامر وہی غالب آئے گا اور ان کے جمع کردہ اموال پر قابض ہو جائے گا، یوں وہ تینوں لشکروں پر غالب آجائے گا۔

### سفیانی کی ترک اور روم سے جنگ:

پھر سفیانی ترکی اور روم والوں سے قرقیسا کے مقام پر جنگ کرے گا اور حسب سابق ان پر بھی غالب آجائے گا اور زمین میں فساد برپا کر دے گا، عورتوں کے پیش چاک کر کے اس میں سے بچوں کو نکال کر قتل کر دے گا۔

اس دوران کچھ قریشی افراد بھاگ کر قسطنطینیہ چلے جائیں گے، جب سفیانی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ روم کے فرمازوں کے پاس یہ پیغام بھیجے گا کہ ان کو میرے پاس واپس بھیج دو، وہ اس کے حکم کی تعییل میں ان لوگوں کو واپس بھیج دے گا اور سفیانی دمشق کے کسی شہر کے دروازے پر ان کی گرد نیں اڑا دے گا۔

### سفیانی کا فساد برپا کرنا:

کچھ حصے کے بعد اس کے پیچے ایک جماعت شورش برپا کر دے گی۔ سفیانی ان کی طرف پلٹے گا اور ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر دے گا، بقیہ ماندہ لوگ ٹکست کھا کر خراسان میں پناہ گزین ہو جائیں گے، سفیانی اپنے گھوڑے کو ان کی تلاش میں رات کی سیاہی اور سیلا ب کے بہاؤ کی طرح دوڑائے گا اور اس دوران جہاں سے بھی گزرے گا وہاں تباہی پھیلا دے گا، قلعوں کو منہدم کر دے گا اور بغداد پہنچ کر ایک لاکھ آدمیوں کو سوت کے گھاٹ اتار دے گا، پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گا اور وہاں سامنہ ہزار افراد کو تہہ تھی کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالے گا اور تمام شہروں میں اپنے فوجی پھیلا دے گا اور اہل خراسان کو بہر صورت تلاش کرنے پر مصر ہو گا۔ اور اسی دوران ایک لشکر مدینہ منورہ کی طرف بھی بھیجے گا جو اہل بیت نبوی میں سے ہر اس شخص کو پکڑے گا جس پر وہ قادر ہو گا اور بنہاشم کے مردوں اور عورتوں کو قتل کر دے گا۔ اس کے بعد سفیانی اس لشکر کے ایک حصے کو کوفہ

وایس بلا لے گا اور باتی لوگ خشکی میں منتشر ہو جائیں گے۔ (اس سے ملتے جلتے الفاظ  
متدرک حاکم: ۵۶۵/۲ پر بھی موجود ہیں)

### امام مہدیؑ کا مکہ میں روپوش ہونا:

اس وقت مہدیؑ اور میض (اور ایک روایت کے مطابق مہدیؑ اور منصور)  
سات افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا کر روپوش ہو جائیں گے، اور جب گورنر مدینہ کو ان  
کے فرار ہونے کی اطلاع ملے گی تو وہ مکہ مکرمہ کے گورنر کو یہ خط لکھے گا کہ جب تمہارے  
پاس فلاں فلاں نام کے آدمی پہنچیں تو انہیں قتل کر دینا، گورنر مکہ کو یہ بات بڑی ناگوار  
گزرے گی اور وہ اس سلسلے میں اپنے مشیروں سے مشورہ کرہی رہا ہو گا کہ رات کے وقت  
وہ لوگ اس کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے آپنچیں گے، گورنر مکہ ان سے کہے گا کہ  
تم یہاں بے خوف و خطر ہو کر اطمینان سے رہو۔

### گورنر مکہ کا دھوکہ دینا:

اس کے بعد وہ نجات کیا سوچ کر ان میں سے دو آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے  
اپنے بندے بیچ دے گا چنانچہ ان میں سے ایک قتل ہو جائے گا اور دوسرا بیچ جائے گا اور  
وہ اس طرح کہ وہ لوگ نفس زکیہ کو مجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کر دیں گے،  
اس وقت اللہ تعالیٰ کو اور تمام آسمان والوں کو اس دھوکہ دہی پر غصہ آجائے گا۔

ادھر وہ دوسرا شخص جو قتل ہونے سے بیچ گیا ہو گا اپنے ساتھیوں کو آکر خبر دے گا  
کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر طائف کے ایک پہاڑ پر  
پڑا ذڈائیں گے اور وہاں رہ کر لوگوں کو پیغامات کے ذریعے جہاد کی ترغیب دیں گے، لوگ  
اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، جب اہل مکہ کو اس کی خبر ہو گی تو وہ ان سے جنگ کریں  
گے اور یہ لوگ اہل مکہ کو خلکست دے کر مکہ مکرمۃ میں داخل ہو جائیں گے۔

## حج کی ادا یگی کا امیر کے بغیر ہونا:

اس دوران چونکہ گورنر مکہ قتل ہو چکا ہو گا اور حج کا موسم بھی قریب ہو گا اس لیے اس سال لوگ بغیر امیر کے حج کریں گے، اور جب مٹی میں پہنچیں گے تو کسی بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آپزیں گے، خوب قتل و قتال ہو گا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہو گی۔

اسی دوران پوری دنیا میں سے سات بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آپنچیں گے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر تین سو دس کچھ اور افراد نے بیعت کر رکھی ہو گی، یہ علماء مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کتن کیوں آئے ہو؟ ہر ایک کا یہی جواب ہو گا کہ ہم تو اس آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھ پر یہ فتنہ ختم ہوں گے اور قسطنطینیہ فتح ہو گا، نیز ہم اس شخص کو اس کے والدین کے نام سے پہچان لیں گے۔

## سات بڑے بڑے علماء کا امام مہدی کو تلاش کرنا:

چنانچہ وہ ساتوں علماء اس پر متفق ہو کر امام مہدی کو تلاش کریں گے اور جب ایک شخص میں مہدی موعود کی تمام علامتیں پائیں گے تو اسے کہیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ وہ شخص جواب میں کہے گا کہ میں تو ایک انصاری آدمی ہوں اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جائے گا۔ وہ علماء دوسرے جانے والوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہی تو تمہارا گوہ مطلوب ہے، لیکن اس دوران امام مہدی مدینہ منورہ جا چکے ہوں گے، وہ لوگ ان کی تلاش میں مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں گے، امام مہدی کو جب اس کی اطلاع ملے گی تو وہ مکہ مکرمہ آجائیں گے، غرض اس طرح مکہ سے مدینہ کی طرف ان کے تین چکر لگیں گے۔

فائدہ:

اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعات کی اس تفصیل سے یہ بات

معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی رضوان اللہ علیہ کی بیعت جس سال ہوگی، اسی سال منی میں خون ریزی ہوگی اور اسی سال چند ایام کے بعد ماہ محرم الحرام میں عاشوراء کی رات کو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور اس دوران وہ ساتوں علماء مدینہ کے تین چکر بھی لگائیں گے حالانکہ مدینہ اور مکہ کے درمیان کافی طویل فاصلہ ہے تو اس مختصری مدت میں یہ کیسے ممکن ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل اس قدر تیز رفتار سواریوں کی موجودگی میں یہ اعتراض کچھ حقیقت نہیں رکھتا جبکہ پوری دنیا سٹ کر ایک محلہ بن چکی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ تمام حضرات اولیاء اللہ میں سے ہوں گے، اگر کرمۃ ان کے لیے زمین کی دوری کو پیٹ کر طویل فاصلے مختصر کر دیئے جائیں تو یہ بھی کوئی بعید نہیں۔

### امام مہدیؑ کا حجر اسود کے پاس ملنا:

اوھر جب مدینہ منورہ کے گورنر کو پستہ چلے گا کہ لوگ امام مہدیؑ کی تلاش میں ہیں تو وہ مکہ مکرمہ میں موجود بناشم کو تلاش کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کرے گا، اسی اشنا میں وہ ساتوں علماء تیسری مرتبہ امام مہدیؑ کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو پھر ہمارا گناہ بھی آپ پر ہو گا اور ہمارا خون بھی، یعنی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے جس کا سردار قبیلہ حزم کا ایک آدمی ہے، اور وہ علماء امام مہدیؑ کو بیعت نہ کرنے پر قتل تک کی دھمکی دی دیں گے۔

کتاب اللہ عن کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ لوگ کسی بہترین قائد کی تلاش میں ہوں گے اور تلاش کرتے کرتے امام مہدیؑ تک جا پہنچیں گے جو کعبہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چپکا کر رہے ہوں گے، راوی حدیث حضرت عبد اللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ گویا اس وقت میں ان کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ ان سے بیعت کی

درخاست کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ تم پر افسوس ہے کہ اس قدر وعدہ خلافی اور خون ریزی کے بعد میرے پاس آئے ہو؟

### فائدہ:

اس روایت میں تو سات علماء کا ذکر نہیں لیکن دوسرے مقام پر ص ۲۳۱-۲۳۲ پر  
ان کا ذکر ہے نیز سید بزرگ نے بھی ان علماء کا ذکر کیا ہے اس لیے اس روایت کو بھی انہی سات علماء پر محمول کیا جائے گا۔

### امام مہدیؑ کا بیعت لینا:

مجبور ہو کر امام مہدی رضوان اللہ علیہ چبر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا میں گے اور ان سے بیعت لیں گے گویا یہ خصوصی بیعت ہوگی، پھر وہ اسی دن جبکہ عاشوراء کی رات ہوگی، عشاء کی نماز کے وقت حضور ﷺ کے جھنڈے، قیص اور تکوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر دور کعت نماز ادا فرمائیں گے اور پھر منبر پر چڑھ کر با آواز بلند یوں خطاب فرمائیں گے ”کاے لوگو! میں تمہیں تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراتا ہوں اور اس بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں“ اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمائیں گے جس میں لوگوں کو سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعتوں کو ختم کرنے کی ترغیب دیں گے۔

### امام مہدیؑ کا پہلا خطبہ:

امام مہدیؑ کے اس پہلے خطبے کے کچھ الفاظ کتاب الفتن ص ۲۳۱ پر اس طرح مذکور ہیں۔

”کاے لوگو! میں تمہیں اللہ (جس کو ہم بھلا چکے ہیں) یاد کرو انا چاہتا ہوں اور یہ کہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ

اتمام جھت کر چکا، اس نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کوششیک نہ ظہرا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر حافظت کرو۔ جن چیزوں کو قرآن کریم نے زندہ کرنے کا حکم دیا ہے تم انہیں زندہ کرو، جن چیزوں کو چھوڑنے اور ختم کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کر دو اور بدایت کے کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اور تقویٰ پر ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ اس لیے کہ دنیا کے فنا وزوال کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ رخصت ہونے کے قریب ہے اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی طرف دعوت دینا ہوں۔“

اور ایک رایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ:

”اے لوگو! امت محمدیہ کو عصائب نے آ گھیرا، خاص طور پر حضور ﷺ کے خاندان والوں کو اور ہم مغلوب ہو گئے اور ہمارے خلاف کفار نے بغاوت کر کے ہم پر چڑھائی کر دی۔“

پھر اہل بدر کی تعداد کے برابر ۱۳۱۳ افراد کے ساتھ ظہور کریں گے اور ۱۳۱۳ افراد ہی طالوت کے ساتھ بھی لٹکے تھے، جب انہوں نے جالوت کے مقابلے کا ارادہ کیا تھا اور نہر عبور کی تھی۔

### امام مهدیؑ کے اعوان والنصار:

حضرت امام مهدیؑ کے ساتھ یہ ۱۳۱۳ افراد شام کے ابدال، عراق کے عصائب اور مصر کے نجائب پر مشتمل ہوں گے جو رات کے وقت شب زندہ دار اور دن کے وقت شہسوار ہوں گے، جب ان کے پاس گورنمنٹ کا بھیجا ہوا لکھر پہنچے گا تو یہ اس سے قیال کر

کے اسے نکست سے دو چار کر دیں گے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ان کے پیچے سے آزاد کرالیں گے۔

## ابdal، عصائب اور نجاء سے کن لوگ مراد ہیں؟

ابdal اور عصائب وغیرہ الفاظ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بھی آئے ہیں، ان کی تشریح ملک علی قاریؒ کی زبانی ملاحظہ ہو:

”ابdal، بدл کی جمع ہے، ان کو ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل کر مقرر فرمادیتے ہیں۔ جو ہری کہتے ہیں کہ ابدال، صلحاء کی وہ جماعت ہے جن سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی جوں ہی ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے، دوسرے اس کی جگہ تعینات کر دیا جاتا ہے، ابن درید نے کہا ہے کہ ابدال، بدل کی جمع نہیں بلکہ بدیل کی جمع ہے جیسے شریف کی جمع اشرف، اور ان کو ابدال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے رہتے ہیں اور پہلی جگہ ان کی شبیہ قائم کر دی جاتی ہے۔ قاموس میں ہے کہ ابدال وہ قوم ہے جن سے اللہ عز و جل زمین کو قائم رکھتے ہیں، ایسے افراد کل ستر ہوتے ہیں جن میں سے چالیس صرف شام میں رہتے ہیں اور تیس شام کے علاوہ دیگر مقامات پر رہتے ہیں۔“

یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ شام سے صرف دمشق مراد نہیں بلکہ شام اور اس کے ارد گرد کا پورا علاقہ مراد ہے۔

اسی طرح ان حضرات کو ابدال کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اخلاقیِ رذیلہ کو بدل کر اخلاقی حصہ اختیار کر لیے یا یہ کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ قطب حقانی شیخ

عبد القادر جیلانیؒ ”ان کو ابدال کہنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا تو اس کا بدلہ ان کو یہ عطا ہوا کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئی، اب ان لوگوں کے حق میں یہ چیز بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ ارادہ خداوندی کے ساتھ کسی کو بھول کر یا غلبہ حال میں آ کر شریک بناؤیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی دلگیری فرماتے ہیں تو وہ اس سے بازا آ کر رب ذوالجلال سے استغفار کرتے ہیں اور شاید عارف باللہ این فارض نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

ولو خطرت لى فى سواك اراده

على خاطرى سهوا حكمت بردى

اگر میرے دل میں بھولے سے بھی تیرے علاوہ کسی اور کے بارے میں کوئی ارادہ کھلکھلے تو میں اپنے مرتد ہونے کا فیصلہ کروں گا۔

اور اہل عرب کا یہ مقولہ ہے ”حسنات الابرار میثاق المقربین“۔

### عصائب:

”نهایہ میں لکھا ہے کہ عصائب، عصابة کی جمع ہے اس کا اطلاق دس سے لے کر چالیس تک کی جماعت پر ہوتا ہے، اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ”ابdal شام میں ہوتے ہیں۔ نجاء مصر میں اور عصائب عراق میں۔“

”عصائب عراق میں“ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ عراق جنگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زہدوں کی ایک جماعت ہے جن کا نام ہی عصائب ہے اس لیے کہ حضرت علیؓ نے اس کو ابدال اور نجاء کے

ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں اپنی سند سے حضرت ابن عمرؓ سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ ہر زمانے میں پانچ سو افراد ہوتے ہیں اور چالیس ابدال ہوتے ہیں، نہ وہ پانچ سو کم ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ چالیس۔ اس لیے کہ جب ان چالیس میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پانچ سو میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر فرمادیتے ہیں۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے (کہ وہ کسی قسم کے اعمال کر کے اس رتبہ علیاً تک پہنچے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اپنے ساتھ برا کرنے والوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدری کرتے ہیں۔“

اور ابو نعیم ہی کی سند سے اس سلسلے کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خلوق میں سات بندے ایسے ہیں..... کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی اور موت دیتے ہیں، بارش بر ساتے، پیداوار اگاتے اور مصائب کو روکتے ہیں، حضرت ابن مسعودؓ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کو زندگی اور موت کیسے دیتے ہیں؟ فرمایا اس طرح کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے امت کی کثرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمادیتے ہیں، ظالموں کے خلاف بدعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تھس نہس فرمادیتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش بر سادیتے ہیں، دعا کرتے

ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کی پیداوار اگادیتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مصائب کو دو فرمادیتے ہیں۔” (مرقاۃ ج ۱۰ ص ۲۶-۲۷)

اگر خوف طوالت دامن کیرنہ ہوتا تو ابھی ملا علی قاریؑ کا تبصرہ نقل کرنا باقی رہ گیا ہے اس کو بھی ذکر کرتا لیکن اسی پر اکتفاء کرتے ہوئے آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ چلیں کہ حضرت امام مہدیؑ کے ساتھ شام کے ابدال، عراق کے عصائب بطور اعوان و انصار کے ہوں گے۔

### مقام بیداء میں لشکر سفیانی کا دھنسنا:

جب سفیانی کو حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی اطلاع ملے گی تو وہ کوفہ سے ایک لشکر مدینہ کی طرف بیجیے گا جو تین دن تک مدینہ منورہ میں خوب قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھے گا اور امام مہدیؑ کی تلاش میں ہو گا، پھر وہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہو گا اور جب مقام بیداء میں پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں ڈھن جائے گا۔ (مسلم شریف حدیث نمبر ۷۲۳۰ تا ۷۲۳۲، ابن ماجہ تا ۷۰۶۵ تا ۷۰۶۳) صرف دو آدمی پیچیں گے جن میں سے ایک تو سفیانی کے پاس یہ بڑی خبر لے کر پہنچے گا اور دوسرا حضرت امام مہدیؑ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے گا، جب امام مہدیؑ اس خبر کو سیئیں گے تو فرمائیں گے کہ ہاں! اب خروج کا وقت آیا ہے چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور بنو ہاشم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آزاد کرائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سر زمین جا زکو فتح کر ڈالیں گے۔

### اہل خراسان پر کیا بیتی؟

اس سے قبل آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہ حضرت امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل کچھ لوگ خراسان میں روپوش ہو جائیں گے جن کی تلاش سفیانی برابر جاری رکھے گا لیکن ان پر قابضتہ پا سکے گا کہ اس اثناء میں امام مہدیؑ کا ظہور ہو جائے گا۔

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کے بعد ان کی مدد اور اہل خراسان کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ ماوراء النہر کے علاقے سے حارث یا حارث نای خُنُس کو پیدا فرمائیں گے، وہ

ایک لشکر تیار کر بے گا جس کے ہر اول کافر منصور نامی شخص ہو گا اور وہ حضور ﷺ کے اہل بیت کو دیے ہی پناہ دے گا جیسے قریش نے قول اسلام کے بعد حضور ﷺ کو دی تھی اور مخواہے حدیث ہر مسلمان پر اس کی مدد کرتا واجب ہو گا۔

وہ اہل خراسان کو لے کر سفیانی کے لشکر پر حملہ کرے گا اور ان کے درمیان کی جھڑپیں ہوں گی چنانچہ ایک جھڑپ تیونس میں ہو گی، ایک دلاب الری میں اور ایک تخوم زریغ میں۔ (کتاب المختن ص ۲۸ پر مذکورہ جگہوں کے نام اس طرح لکھے ہوئے ہیں ہیں قوم، دولات الری اور تخوم زریغ۔ واللہ عالم بالصواب) لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جھڑپوں اور جنگوں کا یہ سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو وہ بنو ہاشم کے ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے جس کی دامیں ہتھیں میں تل کا نشان ہو گا اور وہ امام مہدیؑ کا حقیقی یا پچھازاد بھائی ہو گا (اور دوسرا قول ہی راجح ہے) اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ معاملہ آسان فرمادیں گے۔

### خراسان سے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانگی:

امام مہدیؑ کا پچھازاد بھائی اس وقت شرق کے آخری کونے میں ہو گا اور خراسان و طالقان کے لوگوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانہ ہو گا اور اس کے ہر اول کافر بزنیم کے موالي میں سے متوسط قد و قامت والا، زردی مائل رنگ اور ہلکی ڈاڑھی والا (جو صرف ٹھوڑی پر ہو گی) ایک شخص شعیب بن صالح نامی ہرگا، وہ پانچ ہزار افراد کے ساتھ نکلے گا اور اس قدر جی دار ہو گا کہ اگر اس کے راستے میں مضبوط پہاڑ بھی حائل ہو جائیں تو وہ ان کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دے گا اور امام مہدیؑ کے لیے آسانی کر دے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِرَأْيَاتِ سُودَاءِ أَقْبَلَتْ مِنْ خَرَاسَانَ فَاتُوهَا﴾

• ولو حبوا على الشلح (ترمذی: ج ۲ ص ۵۶)

”جب تمہیں خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈوں کے آنے کی خبر“

ملے تو تم ان کے پاس چلے جانا اگرچہ برف پر چل کر جانا پڑے۔“

### سفیانی کے ساتھ جنگیں:

الغرض! اس کا سفیانی کے لشکر سے آمنا سامنا ہو گا اور ان کے درمیان انتہائی شدید جنگ ہو گی پھر بحثان کی طرف سے اس ہاشمی کی امداد کے لیے ایک بڑا لشکر آپنے گا جس کا سردار بنو عدی میں سے ہو گا اور یوں اللہ تعالیٰ ”ری“ کی اس جنگ میں اپنے دوستوں کی مدد فرمائے گا۔

”ری“ کی اس جنگ کے بعد ”ماں“ میں جنگ ہو گی پھر ”عاقر قوفا“ میں ایک صلیبی جنگ ہو گی اور سیاہ جہندے آ کر ایک پانی والی جگہ ( غالباً دریائے دجلہ) کے قریب پڑا اور ڈالیں گے، ادھر کوفہ میں جب سفیانی کے لشکر یوں کو ان کے آنے کی اطلاع ملے گی تو وہ بھاگ جائیں گے اور مسلمان کو فوج پہنچ کر تمام بنو ہاشم کو آزاد کرالیں گے، اس کے کچھ عرصہ بعد کوفہ کے کسی علاقے سے ایک قوم نکلے گی جس کا نام ”عصب“ ہو گا، ان کے پاس تھوڑا سا سلحہ ہو گا، ان میں بصرہ کے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو سفیانی کے لشکر کو خیر باد کہہ چکے ہوں گے وہ ان کے ساتھ آمدیں گے۔

جب بنو ہاشم کو فوج کے قید یوں کو آزاد کرالیں گے تو ان میں سے کچھ لوگوں کو سیاہ جہندے دے کر (جو کہ بطور علامت کے ہوں گے) امام مہدیؑ کے پاس بیعت کے لیے بھیجیں گے چنانچہ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوں گے اور سرز میں حجاز میں امام مہدیؑ کو پالیں گے اور ان سے بیعت کر کے ان کو اپنے ساتھ شام لے آئیں گے۔

### کلمہ حق کہنے کی سزا:

اس طرف تو یہ ہو رہا ہو گا اور دوسری طرف سفیانی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہو گا حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بد کاری کی جائے گی، اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہو گا، اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد

کی یہ بے حرمتی اور یہ کریمہ منظر دیکھانہ جائے گا اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ افسوس ہے تم پر، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو؟ یہ ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ سفیانی کو حق کی یہ بات کڑوی لگئی گی اور وہ اس کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاث اتار دے گا اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی قتل کروے گا۔

اس وقت آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم سے ظالموں، منافقوں اور ان کے ہمنواؤں کو دور کر کے امت محمدیہ کے بہترین فرد کو تم پر امیر مقرر کیا ہے لہذا تم مکہ مکرمہ میں ان سے جا کر مل جاؤ (ان کے لئے میں شامل ہو جاؤ) کہ ان کا نام احمد بن عبد اللہ ہے اور وہی مہدی ہیں۔

### امام مہدیؑ کی کرامت:

امام مہدیؑ ان داروین سے بیعت لینے کے بعد اپنی افواج کو لے کر آہستہ آہستہ واوی قری کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہاں ان کے پچاڑا بھائی بارہ ہزار کے لئے کے ساتھ ان سے آ کر ملیں گے اور کہیں گے کہ اے برادر عجم! میں اس امر خلافت کا تم سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، امام مہدیؑ ان سے کہیں گے کہ نہیں! مہدی تو میں ہوں! حسنی کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی ہے جس سے آپ کا مہدی ہونا معلوم ہو جائے؟ اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلوں؟ اس پر امام مہدیؑ ایک اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ فرمائیں گے، وہ ان کے سامنے آگرے گا اور زمین کے ایک کونے میں ایک خلک ٹھنی گاڑ دیں گے وہ اسی وقت سر بز ہو کر برگ وبارلانے لگے گی۔ یہ کرامت دیکھ کر حسنی کہیں گے کہ اے برادر عجم! یہ آپ ہی کا منصب ہے اور آپ ہی کو مبارک ہو اور یہ کہہ کر امام مہدیؑ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔

### سفیانی کا بیعت کرنا:

حسنی سے بیعت لینے کے بعد امام مہدیؑ وہاں سے کوچ کریں گے اور شام و

حجاز کے درمیان شام کی سرحد کے قریب جا کر پڑا وہ ذاتیں گے، وہاں پہنچ کر لوگ ان سے سفیانی پر لشکر کشی کا مطالبہ کریں گے لیکن امام مهدیؑ عجلت کو ناپسند کر جھیں گے اور فرمائیں گے کہ میں سفیانی کے پاس اپنی اطاعت کا پیغام بھیجا ہوں، اگر اس نے میری اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تو میں تمہاری خواہش کے مطابق اس پر لشکر کشی کروں گا جتنا چاہی امام مهدیؑ سفیانی کو ایک خط لکھیں گے (جس میں اس سے اپنی بیعت و اطاعت کا مطالبہ کریں گے) جب وہ خط سفیانی کو ملے گا تو وہ اپنے مشیروں کے مشورے سے امام مهدیؑ کی بیعت کر لے گا اور وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس جا پہنچ گا۔

پھر امام مهدیؑ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اہل شام میں سے کسی کے پاس بھی ذمیوں کی زمین نہیں رہنے دیں گے بلکہ ان سے لے کر ان کے ذمی مالکوں کے حوالے کر دیں گے خواہ وہ زمین کا چھوٹا سا گلزار ہی کیوں نہ ہو اور تمام مسلمانوں میں جہاد کی روح پھونک دیں گے۔

### عہد شکنی:

سفیانی کی بیعت کے بعد قبیلہ بنو کلب کا کنانہ نامی ایک شخص اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر سفیانی سے ملاقات کرے گا اور اس سے کہہ گا کہ ہم نے تیری بیعت کی اور تیری مدد کی یہاں تک کہ جب تو زمین کا بادشاہ بن گیا تو تو نے اس آدمی یعنی مهدیؑ کی بیعت کر لی؟ اور اس کو عار دلاتے ہوئے یہ بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک قیص پہنائی تھی تو نے اس کو کیوں اتار دیا؟ سفیانی کہہ گا کہ میں تو مهدیؑ کی بیعت کر چکا ہوں اور ان کا حامی بن کر رہنے کا وعدہ کر چکا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنا وعدہ توڑ دوں؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں! تم اپنا وعدہ توڑ دو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہی، بنو عامر کے تمام افراد بھی تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرے گا۔ سفیانی ان کی باتوں میں آ کر بارا دہ جنگ وہاں سے کوچ کر جائے گا اور اس کے ساتھ تمام بنو عامر بھی روانہ ہو جائیں گے۔ اور ایک

روایت میں یہ ہے کہ امام مہدیؑ سے بیعت کرنے کے تین سال بعد سفیانی عہد شکنی کرتے ہوئے اس بیعت کو خود ہی توڑ دے گا۔

### سفیانی کا قتل:

امام مہدیؑ کو جب اس نقض عہد و بیعت کی اطلاع ملے گی تو وہ اپنے جھنڈے سمیت اس پر لٹکر کشی کریں گے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑے جھنڈے کے ماتحت سوا فراد ہوں گے۔ سفیانی کا لٹکر یعنی قبلیہ بنو کلب کے لوگ بھی (جود رحقیقت سفیانی کو نقض عہد پر برائی کرنے والے تھے) صفت بندی کر لیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ سفیانی کے لٹکر میں سوار اور پیادہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لٹکر آئنے سامنے صفت بستہ ہو جائیں گے تو لا ای شروع ہو جائے گی اور شدید جنگ کے بعد قبلیہ بنو کلب کے لوگ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، امام مہدیؑ کے لٹکری انہیں قتل کرنا شروع کر دیں گے، مال غنیمت میں بہت سے قیدی بھی ہاتھ آئیں گے حتیٰ کہ ایک کنواری دو شیزہ باندی کو آٹھ درہم کے بدالے بیچا جائے گا۔

سفیانی پکڑ کر قید کر لیا جائے گا اور اسے امام مہدیؑ کے پاس لے جایا جائے گا، وہ اسے ایک کنیسہ کے پاس موجود ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کروادیں گے۔

### مال غنیمت کی تقسیم:

سفیانی کے قتل سے فراغت کے بعد امام مہدیؑ مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے، اسی موقع کے لیے حضور ﷺ کا یہ فرمان مبارک ہے:

﴿الخائب من خاب يومئذ من غنيمة كلب ولو بقال،  
قيل يا رسول الله! كيف يغنمون أموالهم ويسبون  
ذراريهم وهم مسلمون؟ قال ﷺ يكفرون﴾

(الاشاعت: ص ۲۲)

”اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہو گا جو بنو کلب کے مال

غیمت سے محروم رہا (اس مال غیمت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے) اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ لوگ ان کے اموال کو غیمت اور بچوں کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود کتنے قیدی بنالیں گے؟ فرمایا کہ وہ شراب اور زنا کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیئے جائیں گے۔“

### استحکام اسلام:

سفیانی کے قتل کے بعد اسلام کو استحکام نصیب ہو گا، امام مہدیؑ کے لیے زمین کو پلیٹ دیا جائے گا، زمین کے تمام حکمران ان کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے، پھر امام مہدیؑ ہندوستان کی طرف ایک لشکر بھیجن گے، وہ لشکر کامیاب ہو گا اور ہندوستان کو فتح کر کے وہاں کے حکمرانوں کو پاپہ زنجیر امام مہدیؑ کی خدمت میں پیش کرے گا، ہندوستان کے خزانے بیت المقدس لے جائے جائیں گے اور ان سے بیت المقدس کی تزیین و آرائش کا کام لیا جائے گا اور اسی طرح کئی سال گزر جائیں گے۔

### فائدہ:

یاد رہے کہ اس مقام پر ہندوستان سے صرف اٹھیا مراد نہیں بلکہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ کیونکہ ہندوپاک کی تقسیم تو اب ہوئی ہے، آج سے صرف سانچھ سال چیچپے چلے جائیں تو آپ کو یہ تقسیم نظر نہیں آئے گی۔

### جنگ عظیم:

آپ پڑھ آئے ہیں کہ حضرت امام مہدیؑ، سفیانی کو بغاوت کے جرم میں قتل کرادیں گے اور زمین پر امن و امان قائم کر دیں گے، اسی امن و امان کے سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہو گی کہ رومنی ان سے صلح کی درخواست کریں گے جس کی مدت بعض روایات

کے مطابق نو سال ہو گی اور ایک روایت کے مطابق سات سال ہو گی۔ امام مہدیؑ اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور صلح کی نوعیت یہ طے پائے گی کہ اگر مسلمان کہیں جہاد کے لیے جائیں گے تو روی ان کی مدد کریں گے اور اگر رومیوں کو مسلمانوں کی امداد کی ضرورت پیش آئی تو مسلمان ان سے تعاون کریں گے چنانچہ اسی طرح کے ایک موقع پر مسلمان اور روی اکٹھے ہوں گے، مسلمانوں کو فریق مخالف پر فتح حاصل ہو جائے گی اور وہ مال غنیمت لے کر واپس آرہے ہوں گے کہ راستے میں مرد ذی تکول کے مقام پر ایک روی صلیب کی چے کاری کرتے ہوئے کہے گا کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں صلیب کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی ہے۔ ایک مسلمان یہ سن کر اس کے جواب میں کہے گا کہ ہرگز نہیں! بلکہ اللہ نے ہمیں غلبہ اور فتح سے ہمکنار فرمایا ہے۔

یوں اس روی اور مسلمان کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی، مسلمان رومیوں کی صلیب گردے گا اور صلیب کا گرنا تو اس کے لیے گویا نیکست کی علامت ہو گا، چنانچہ روی غصہ میں آ کر اس مسلمان کو قتل کر دے گا اور یوں فتنہ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ مسلمان اپنے اسلحے کو لے کر رومیوں پر جا پڑیں گے اور ان سے اپنے مسلمان بھائی کا بدلہ لیں گے لیکن سب کے سب را خدا میں شہادت کے معزز شرف سے مشرف ہو کر بارگاہ خداوندی میں پہنچ جائیں گے۔ (ابوداؤد: حدیث نمبر ۲۲۹۲)

## ۹۶۰۰۰ فوج کا روانہ ہونا:

مسلمانوں کی اس جماعت کو شہید کرنے کے بعد رومیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں سے نکر لینے کے خواب دیکھنے لگیں گے چنانچہ وہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہیں گے کہ عرب کے بدترین لوگوں سے تو ہم نے آپ کی جان چھڑا دی اور ان کے بھادروں، سورماوں کو قتل کر دیا، اب آپ کس انتظار میں ہیں؟ بادشاہ روم ان کے توجہ دلانے پر فوج اکٹھی کرنا شروع کر دے گا اور صرف نو مہینوں میں اتنی بڑی فوج جمع کر لے گا کہ وہ ۸۰۰ دستوں پر مشتمل ہو گی اور ہر دستے میں ۱۲ ہزار سپاہی ہوں گے یعنی ۹۶۰۰۰۰۰

فوجیوں کو لے کر روانہ ہوگا اور مقام اعماق یا دا بق میں پڑاؤ ڈالے گا۔

### رومیوں کا مطالبہ اور لشکرِ اسلام کے تین حصے:

مسلمانوں کو رومیوں کے اس لشکر کی اطلاع ملے گی تو مدینہ منورہ سے انتہائی بہترین افراد پر مشتمل ایک وہ جماعت جو امام مہدیؑ کی معیت میں دادِ جہاد دے چکی ہو گی، نکلے گی اور نہ کورہ مقام پر پہنچ کر صرف بندی کر لے گی اور رویٰ بھی صرف بستہ ہو جائیں گے، اس کے بعد رومیوں میں سے ایک آدمی اپنی صرف سے نکل کر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارے دین سے نکل کر تمہارے دین میں داخل ہو چکے ہیں اور اب تمہارے ساتھ ہم سے لٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لٹانے کے لیے آئے ہیں تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، مسلمان اس کے جواب میں کہیں گے کہ ایسا ہر گز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں اس لیے ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔

اس پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔

(۱) ایک تہائی لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔

(۲) ایک تہائی لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔

(۳) ایک تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں بتلانہ ہو سکیں گے۔  
(سلم شریف: ۷۲۸)

### شام پر رومیوں کا قبضہ:

واقعہ کی یہ تفصیل تو سید بر زنجیؑ کے بیان کے مطابق ہے جبکہ شیخ نعیم بن حمادؓ نے

کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت اس طرح مرفوعاً نقل کی ہے کہ سفیانی کی ہلاکت اور قتل کے بعد مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی اور اسی صلح کی بنیاد پر مسلمان رومیوں کے ساتھ مل کر ان کے دشمن کے خلاف لڑیں گے اور اس قدر جی داری کے ساتھ نہیں گے کہ دشمن کو پیچھے پھیر جانے پر مجبور کر دیں گے اور دشمن سے مال غنیمت حاصل کر لیں گے، رومی بھی مسلمانوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیں گے۔

کچھ عرصے کے بعد مسلمان اہل فارس سے جنگ کریں گے تو رومی ان کی مدد کریں گے اور اہل فارس کو قتل کر کے ان کے بچوں کو قیدی بنالیں گے، جنگ میں کامیابی سے فارغ ہونے کے بعد رومی مسلمانوں سے مال غنیمت تقسیم کرنے کا مطالبہ کریں گے چنانچہ مسلمان انہیں مال و دولت اور مشرکین کے نابالغ بچے بطور مال غنیمت کے دیں گے لیکن اس سے آگے بڑھ کر رومی یہ مطالبہ کریں گے کہ تمہیں مسلمانوں کے جو بچے قیدیوں میں ملے ہیں، ہمیں ان میں سے بھی حصہ دو، مسلمان کہیں گے ایسا بھی نہیں ہو گا کہ ہم مسلمانوں کے بچے تمہارے حوالے کر دیں، اس پر رومی کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور قسطنطینیہ کے بادشاہ کے پاس جا کر دہائی دیں گے کہ عربوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے جبکہ ہم تعداد اسلجہ اور قوت میں ان سے زیادہ ہیں اس لیے آپ ہماری امداد کریں تاکہ ہم مسلمانوں سے انتقام لے سکیں لیکن قسطنطینیہ کا بادشاہ ان کی کسی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اور اب وہ ہم پر ہمیشہ غالب ہی رہیں گے۔

یہ لوگ یہاں سے مایوس ہو کر بادشاہ روم کے پاس آئیں گے اور اس کو تمام حالات سے مطلع کریں گے، وہ ان پر ترس کھا کر سمندر کے راستے ۸۰ جھنڈے روانہ کرے گا اور اس لٹکر کے ہر جھنڈے کے ماتحت ۱۲ ہزار سپاہی ہوں گے۔ درمیان راستے میں ان کا سپہ سالار فوج سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے میرے سپاہیو! جب تم شام کے ساحل کو پار کر لو تو اپنی سواریوں کو جلا دو تاکہ تمہارے پاس والپن جانے کا کوئی راستہ نہ رہے اور تم خوب جی داری سے مقابلہ کر سکو چنانچہ وہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے

ایسا ہی کریں گے اور مسلمانوں سے اس بہادری کے ساتھ لڑیں گے کہ دمشق اور عین قلنیک کے علاوہ پورے شام پر قابض ہو جائیں گے اور وہاں غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے نیز مسجد اقصیٰ کو بھی ویران کر دیں گے۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس وقت دمشق میں کتنے مسلمان آئیں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، جتنے مسلمان اس میں سما نا چاہیں گے، سما جائیں گے بالکل اسی طرح جیسے ماں کا رحم بچے کے لیے کشادہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! ”معنی“ کیا چیز ہے؟ فرمایا شام کے شہر حصہ میں ایک پہاڑ ہے جس کے قریب ”اریط“ نامی ایک نہر ہوگی۔

### رومیوں کی شکست:

رومیوں کے حملے کے وقت مسلمانوں کے بچے مخفق (پہاڑ) کے اوپر والے حصے پر ہوں گے اور خود مسلمان نہاریط پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے اور صبح سے لے کر شام تک رومیوں سے قتال کیا کریں گے، ادھر قسطنطینیہ کے گورز کو جب اس کی خبر لگے گی تو وہ خشکی کے راستے قسرین کی طرف تین لاکھ فوج کے ساتھ روانہ ہو گا، راستے میں یمن سے بھی ہزاروں آدمی اس سے آ کر مل جائیں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے محبت والفت پیدا فرمادیں گے، ان میں سے ۴۰ ہزار تو فقط قبیلہ حمیریہ کے جامبار ہوں گے۔

قطسطنطینیہ کا گورزان کے ساتھ بیت المقدس پہنچے گا اور رومیوں سے قتال کر کے ان کو شکست سے دوچار کر دے گا، اس کے بعد وہ لشکر مختلف چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر قسرین کے پاس آ کر پڑاؤ کرے گا اور وہاں آ کر ان سے مادۃ الموالی بھی مل جائیں گے۔

ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ مادۃ الموالی کون لوگ

ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے ہی آزاد کردہ لوگ ہوں گے جو فارس کی جانب سے آئیں گے اور اہل عرب سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے جماعت عرب! تم نے عصیت کی راہ اختیار کی، اس وجہ سے تم مغلوب ہو گئے اور جب تک تم تعصیب اختیار کیے رہو گے، مغلوب ہی رہو گے اس لیے اب تم سب کو مجتمع ہو جانا چاہیے چنانچہ سب مسلمان جمع ہو کر حملہ کریں گے لیکن ان میں سے ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے، ایک تہائی بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایک تہائی باقی بچپن گے۔

جو مسلمان اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے ان میں سے ہر شہید کا درجہ ثواب کے اعتبار سے دس شہداء بدر کے برابر ہو گا اور اللہ کے نزدیک شہداء بدر کی اتنی عزت ہے کہ ان میں سے ایک کی شفاعة ستر شہداء کے برابر ہو گی (اس اعتبار سے اس جنگ میں جو مسلمان شہید ہوں گے، ان کی شفاعة ۲۰۰ شہداء کے برابر ہو گی لیکن یہ بات ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ آنے پائے کہ اس طرح تو پھر یہ لوگ صحابہ کرام سے افضل ہو گئے؟ اس لیے کہ نبی اکرم ﷺ کی فقط صحبت مبارک ہی ایسی چیز ہے کہ کوئی چیز اس سے بڑھ کر تو کیا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس جہت سے ان لوگوں کی فضیلت تسلیم کر بھی لی جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمہ پہلو یہ لوگ صحابہ کرام سے افضل ہو گئے۔)

### باقی ماندہ لشکر کے تین حصے:

باقی ماندہ ایک تہائی لشکر پھر تین حصوں میں بٹ جائے گا۔

(۱) ایک تہائی حصہ رومیوں کے ساتھ جا ملے گا اور کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس دین (اسلام) کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ اس کی ضرور مدد کرتا۔

(۲) عرب کے مسلمان جو ایک تہائی ہوں گے، کہیں گے کہ کسی ایسی جگہ جا کر آباد ہو جاؤ جہاں ہم تک رومیوں کی پہنچ نہ ہو سکے مثلاً کسی دور دراز کے دیہات وغیرہ میں یا عراق، یمن اور ججاز کے ایسے علاقوں میں جہاں روئی نہ پہنچ سکیں۔

(۳) ایک تہائی حصہ کے افراد ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کو یوں فصیحت اور عہدو پیمان کریں گے کہ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، اپنی عصیت کو چھوڑ کر مجتمع ہو کر دشمن سے قبال کرو اس لیے کہ قبائلی عصیت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ہرگز مدد نہیں آ سکتی چنانچہ وہ سب متخد ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے اس بات پر بیعت کریں گے کہ اب میدان جنگ سے اسی وقت ہمیں گے جب اپنے شہید بھائیوں کے ساتھ جامیں گے۔ (مردتے دم تک لڑتے رہیں گے)

### جبریلؑ و میکائیلؑ کا فرشتوں کی فوج لے کر اتنا:

ادھر جب روی دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں سے اتنے سارے افراد ہمارے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی معتدیہ مقدار قتل ہو چکی ہے اور اب تھوڑے سے لوگ بچے ہیں تو ایک دن ایک روی دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہو گا، اس کے پاس ایک جہنڈا ہو گا جس کے اوپر صلیب لگی ہوئی ہو گی اور وہ یہ نعرہ لگائے گا صلیب کی جے، صلیب غالب ہو گئی، مسلمانوں کو یہ کلمہ انتہائی ناگوار گزرے گا اور ایک مسلمان دونوں لشکروں کے درمیان جہنڈا لے کر کھڑے ہو کر کہے گا کہ اللہ کے دوست اور مدگار غالب ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ کو بھی رومیوں کے یہ کہنے پر، کہ صلیب غالب آگئی، غصہ آجائے گا اور اللہ تعالیٰ حضرت جبریلؑ علیہ السلام کو مسلمانوں کی مدد کے لیے دو ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل فرمائیں گے، اس کے بعد حضرت میکائیلؑ علیہ السلام کو بھی دو ہزار فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی فریاد رک کا حکم ہو گا۔ اس غبی امداد سے مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہو جائیں گے اور کفار و مشرکین شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔

### رومیوں کی دھوکہ دہی:

اس جنگ میں رومیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمان سر زمین روم پر چڑھائی کر دیں گے اور بلہ بولتے ہوئے عمورا نامی جگہ تک جا پہنچیں گے، عمورا کے شہر پناہ

پر ایک خلقت کی شریعہ ہو گی اور وہ جزیہ ادا کرنے کے اقرار پر مسلمانوں سے امان چاہیں گے، مسلمان ان کو امان دیدیں گے۔

امان کی یہ خبر پھیلنے پر مختلف اطراف سے رومی آآ کر یہاں جمع ہوں گے اور کہیں کہ اہل عرب! تمہارے پیچھے تمہاری اولاد میں دجال آ گھسا۔ مسلمان یہ سن کر واپس لوٹ آ جائیں گے لیکن خروج دجال کی یہ خبر جھوٹی ہو گی، ادھر رومی یہ افواہ پھیلا کر مسلمانوں کے جانے کے بعد یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ تمام وہ اہل عرب جوان کے شہروں میں رہائش پذیر ہوں گے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت یا بچے، سب کو قتل کر دیں گے۔

مسلمانوں کو جب اپنے بھائیوں کے قتل اور رومیوں کی اس غداری کی خبر ملے گی تو وہ غصب ناک ہو کر دوبارہ واپس آ جائیں گے اور رومیوں کے لڑاکا افراد کو قتل کر کے ان کے بچوں کو قیدی بنالیں گے اور مال غنیمت جمع کر لیں گے اور جس شہر یا قلعے کو فتح کرنا چاہیں گے، تین دن کے اندر اندر فتح کر لیں گے۔

### خلیج کا محاصرہ:

روم کے چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کرنے کے بعد مسلمان خلیج کے کنارے پڑاؤ کریں گے جو کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان حائل ہو گا، مسلمانوں کی آمد پر اس کے پانی میں طغیانی آ کر اضافہ ہو جائے گا، یہ دیکھ کر قسطنطینیہ کے باشندے کہیں گے کہ صلیب نے ہمارے لیے سمندر کو پھیلا دیا اور مجھ نے ہماری مدد کی، اس لیے اب مسلمان ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔

لیکن اگلے ہی دن ان کے اس کفریہ قول کے علی الرغم خلیج خشک ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجذہ کے طور پر مسلمانوں کی مدد کے لیے بنی اسرائیل کی طرح اس کو خشک کر دیں گے اور مسلمان اس سے پار ہو کر شب جمعہ کو اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے اور ساری رات ایک آدمی بھی نہ سوئے گا اور نہ بیٹھنے گا بلکہ سارا شکر تکمیر و تبلیل اور تحریم و تجدید میں مصروف رہے گا، طلوں فجر کے بعد مسلمان ایک زور دار نعرہ تکمیر بلند کریں گے جس

کی برکت سے شہر کے دونوں برجوں کے درمیان والا حصہ گر جائے گا۔

### خروج دجال:

اب بجائے اس کے کہ روی سنبھل جائیں اور مسلمانوں کی اس تائید غیبی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں، اور زیادہ سرکشی پر آمادہ ہو جائیں گے اور یہ کلمہ کفر بکنا شروع کر دیں گے کہ آؤ! اب تک تو ہم اہل عرب سے لڑتے رہے، اب پہلے اپنے رب سے لڑ کر اس سے نیٹ لیں جس نے ہمارے شہر کو منہدم اور بر باد کر دیا لیکن مسلمان ان پر حملہ کر کے اس جنگ میں قسطنطینیہ کو فتح کر لیں گے اور اسی اثناء میں واقعۃ دجال نکل آئے گا، اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجالی افواج کا مقابلہ کریں گے۔

### جنگ خلیج کی تفصیل ایک دوسری روایت سے:

خلیج کی اس جنگ کی تفصیل ایک دوسری روایت میں اس سے ذرا مختلف ہے اور وہ یہ کہ خلیج پر پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ آپس میں یہ عہد کرے گا کہ ہم غالب ہو کر ہی واپس آئیں گے ورنہ وہیں جان دیدیں گے چنانچہ وہ جا کر رومیوں سے قتال کریں گے اور یہاں تک لڑیں گے کہ رات ان دونوں لشکروں کے درمیان حائل ہو کر انہیں جدا کرے گی، مسلمانوں کا وہ دستہ مکمل شہید ہو جائے گا اور بقیہ ماندہ لشکر بغیر ہار جیت کے فیصلے کے واپس چلا جائے گا، تین دن تک یہی سلسلہ جاری رہے گا، چوتھے دن تمام مسلمان مل کر اکٹھا حملہ کریں گے جس میں کافروں کو شکست ہو جائے گی اور اس قدر کافر قتل ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے کافر قتل نہ ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ اگر ایک پرندہ ان کی لاشوں پر سے گزر کر ایک سرے سے دوسرے سرے پر پہنچنا چاہیے گا تو ان کے لعفن اور بدبوکی وجہ سے یا لمبی مسافت کی وجہ سے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی گر کر مر جائے گا۔

مسلمان شکست خورده رومیوں کا تعاقب کرتے ہوئے خلیج کے کنارے جا پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر ان کے قائد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سمندر کے قریب فجر

کے وضو کے لیے اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے لیکن وہ وضو کے لیے آگے بڑھیں گے تو پانی اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا، یہ دیکھ کر امام مہدی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، اسی طرح تمہارے لیے بھی راستہ بنادیا ہے اس لیے تم اس کو بے خوف و خطر عبور کر جاؤ۔ چنانچہ مسلمان اس کو عبور کر لیں گے اور سمندر پھر پہلے کی طرح ہو جائے گا۔

اب مسلمان شہر پناہ کے قریب پہنچ کر تین مرتبہ نعرہ تکمیر بلند کریں گے جس سے ایوانِ کفر کی دیواریں لرزائیں گی اور تیسرا تکمیر پر اس کے بارہ کے بارہ برج گر پڑیں گے اور یوں وہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گا، مسلمان وہاں ایک سال تک اقامت گزین رہیں گے اور اسی دوران وہاں پر مساجد بھی تعمیر کریں گے۔

پھر مسلمان دوسرے شہر میں داخل ہوں گے، وہاں فتح حاصل کرنے کے بعد وہ ابھی ماں غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ ایک چینخے والا چینخے گا کہ اے لوگو! شام میں تمہارے پیچھے دجال نکل آیا، مسلمان یہ سن کر واپس آ جائیں گے لیکن واپس پہنچنے پر معلوم ہو گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اس لیے مسلمان ایک ہزار کشتوں پر مقام عکاس سے سوار ہو کر اٹک پیروں روم واپس چلے جائیں گے۔ (مسلم شریف: ۷۲۲۲)

### بیت المقدس کا خزانہ:

تواریخ میں یہ بات مذکور ہے کہ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کرشی میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے طاہر بن اسماعیل نامی شخص کو ان پر مسلط فرمادیا چنانچہ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے خوب قتل و غارت گری کی اور بیت المقدس، جو یہودیوں کا مذہبی عبادت خانہ تھا، کو تہس کر کے اس کے تمام زیورات اور آرائش و تربیثیں کا سامان سمندری راستے سے ۲۰۰۰ کشتوں پر لاد کر اپنے ساتھ روم لے گیا۔

جب حضرت امام مہدی رضوان اللہ علیہ روم کو فتح فرمائیں گے تو اس خزانے کو تلاش کرو اکر بیت المقدس بھجوادیں گے، نیز تابوت سکینہ، مائدہ بنی اسرائیل، الواح

تورات کے مکملے، حضرت آدم علیہ السلام کا لباس، حضرت مویٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سليمان علیہ السلام کا تخت، بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے کھانے "من" کے دو فقیر جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوں گے، کو بھی تلاش کروائیں گے۔ اس سلسلے میں امام قطبیؑ نے تذکرہ میں حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کی طویل حدیث ذکر کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

حضرت حذیفہؓ نے حضور ﷺ سے نقل کیا ہے جس میں آپ نے یہ آیت قرآنی "ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخرة عذاب عظیم" پڑھنے کے بعد فرمایا کہ پھر مہدیؑ اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے، وہ شہر انطا کیہ میں آئیں گے جو کہ سمندر کے کنارے ایک بڑا شہر ہے اور اس پر تین مرتبہ نظر تکبیر بلند کریں گے جس کی برکت سے قدرت خداوندی اس کی سمندری شہر پناہ کو گردے گی اور مسلمان، رومیوں کے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیں گے اور ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیں گے۔

یوں امام مہدیؑ کا انطا کیہ پر تسلط قائم ہو جائے گا اور وہ اس میں مساجد اور اسلامی طرز تعمیر کی عمارتیں بناؤیں گے، اس کے بعد شہر رومیہ، قسطنطینیہ اور کنیتہ الذهب کا رخ کریں گے، چنانچہ قسطنطینیہ اور رومیہ میں داخل ہو کر وہاں کے لوگوں سے قاتل کریں گے اور چار لاکھ لڑاکا رومیوں کو تہہ تیغ کر دیں گے۔ اس جنگ میں ستر ہزار باکرہ دو شیزاں میں بطور باندی کے مال غنیمت میں حاصل ہوں گی۔

اسی طرح شہروں اور قلعوں کو فتح کرتے ہوئے، ان کے مال و دولت کو غنیمت بناتے ہوئے، مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بناتے ہوئے جب آپ کنیتہ الذهب میں پہنچیں گے تو وہاں ایسا مال و دولت پائیں گے جس کو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا اور اس پر قبضہ کیا ہوا گا اور یہ مال و دولت ہو گا جو بادشاہ روم قیصر نے اس کنیتہ میں اس وقت رکھا تھا جب اس نے اہل بیت المقدس سے جنگ کی تھی اور یہ مال و دولت وہاں پا کرائے اپنے ساتھ ستر ہزار کشتیوں پر لاد کر لے آیا تھا اور بیت المقدس میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ امام مہدیؑ اس خزانے پر قبضہ کر کے اسے واپس

بیت المقدس بھجوادیں گے۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر تو بیت المقدس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہوا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! بیت المقدس بڑا عظیم گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے ذریعے سونے، چاندی، موٹی، یاقت اور زمرد سے بنایا تھا اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور وہ حضرت سلیمانؑ کے پاس سونے، چاندی کی کانوں میں سے سونا، چاندی اور سمندروں سے جواہرات، یاقت اور زمرد لے کر آتے تھے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

**(وَالشَّيْطَنُ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ) (ص: ۳۷)**

”ہم نے حضرت سلیمانؑ کو معمار اور غوط زن جنات پر تسلط دے دیا۔“

ان چیزوں کے ذریعے حضرت سلیمانؑ نے بیت المقدس کی اس طرح تعمیر شروع کی کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اسی طرح کچھ ستون سونے کے اور کچھ چاندی کے تھے اور اس کو موتیوں، یاقت اور زمرد سے مزین کیا۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر بیت المقدس سے یہ چیزیں کیسے عائب ہو گئیں؟ فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور انہیاء علیہم السلام کو شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک جھوی بخت نصر کو مسلط کر دیا اور سات سو سال تک اس کی حکومت قائم رہی۔ ارشاد خداوندی ”فإذا جاء وعد أولاً هما لئے سے یہی مراد ہے۔“

بخت نصر کے سپاہیوں نے بیت المقدس میں داخل ہو کر مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور ان کے اموال اور بیت المقدس میں موجود تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا اور اس کو ستر ہزار کشتیوں پر لاد کر باہل آئے اور بنی اسرائیل کو وہاں بسا کر سینکڑوں سال تک ان سے خدمت لیتے اور بخت عذابوں میں بتلا کرتے رہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور انہوں نے ملک فارس کے ایک بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بیت المقدس جا کر بنی اسرائیل کو آزاد کرائے، چنانچہ وہ بادشاہ، فارس سے روانہ ہو کر بالل پہنچا اور بقیہ بنی اسرائیل کو بھجو سیوں کے ہاتھ سے آزاد کرایا اور بیت المقدس کے خزانوں کو بھی واپس بھجوادیا تینز بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو! اگر تم دوبارہ اپنی سابقہ روشن پر واپس آگئے تو تمہارے ساتھ پھر بھی سلوک ہو گا جواب ہوا اور ارشاد باری تعالیٰ: ”عسی ربکم ان یرحمکم.....“ اخْ سے یہی مراد ہے لیکن بنی اسرائیل بیت المقدس واپس آنے کے کچھ عرصے بعد دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسپر اللہ تعالیٰ نے بادشاہِ روم قیصر کو ان پر مسلط کر دیا، ارشادِ خداوندی ”فإذا جاء وعد الآخرة .....“ اخْ سے یہی مراد ہے۔

قیصرِ روم نے بروجر سے ان پر لشکر کشی کی اور خوب قتل و قفال کیا اور ان کے اموال اور عورتوں کو لے گیا اور بیت المقدس کے تمام خزانوں کو جمع کر کے ستر ہزار کشتیوں پر لاد کر کنیتۃ الذہب میں لا کر رکھ دیا اور وہ اب تک وہیں ہے جب امام مہدیؑ تشریف لائیں گے تو وہ اس کو حاصل کر کے بیت المقدس واپس بھجوادیں گے اور ان کے زمانے میں مسلمان، مشرکین پر غالب آجائیں گے۔ (تذکرہ للقرطی: ص ۷۰۲ تا ۷۰۳)

### نورہ تکبیر سے شہر فتح ہو جائے گا:

قصہ کوتاہ یہ کہ امام مہدیؑ بیت المقدس کے خزانے بھجوانے کے بعد تابوت سکینہ وغیرہ اشیاء کو لے کر ”قاطع“ نامی شہر میں تشریف لائیں گے، جس کی لمبائی ایک ہزار میل، چوڑائی ۵۰۰ میل اور ۳۶۰ دروازے ہوں گے، امام مہدیؑ اس کا محاصرہ کر لیں گے لیکن وہ شہر بھی سمندر پار ہو گا اور عجیب تر بات یہ ہو گی کہ اس سمندر کو عبور کرنے کے لیے کشتی بھی کام نہ آئے گی، صحابہؓ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کشتی کیوں کام نہیں آئے گی؟ فرمایا اس لیے کہ وہ دریا زیادہ گہر انہیں ہو گا البتہ مسلمان اس سمندر کے درمیان چلتے ہوئے اس کو عبور کر لیں گے اور وہاں پہنچ کر چار مرتبہ باواز بلند نورہ تکبیر بلند کریں

گے جس کی شدت تاثیر کی وجہ سے اس کی شہر پناہ گر جائے گی اور مسلمان فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہو کر مال غنیمت حاصل کر لیں گے اور وہاں سات سال گزار کر بیت المقدس واپس آ جائیں گے، یہاں پہنچ کر انہیں خروج دجال کی خبر معلوم ہو گی۔

### پوری دنیا کی حکمرانی:

ہر وہ شہر جس میں سکندر ذوالقرینین فاتحانہ داخل ہوئے تھے، ان تمام شہروں کو حضرت امام مہدیؑ فتح کر کے وہاں پر امن و امان قائم کر دیں گے اور لوگوں کو ہر قسم کے ظالموں سے پناہ دے دیں گے اور جس وقت دجال کا خروج ہو گا، آپؑ بیت المقدس میں ہوں گے۔

امام مہدیؑ کی اس شاندار فتح اور پوری دنیا پر حکومت کو حضور ﷺ نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ملک الدنیا مؤمنان و کافران اما المؤمنان فذو القرین  
و سلیمان و اما الکافران فنمرود و بخت نصر.  
و سیملکھا خامس من عترتی وهو المهدی﴾

”پوری دنیا کے حکمران دو مومن اور دو کافر ہوئے ہیں، مومن تو حضرت سلیمان اور ذوالقرینین تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ اور غنیمہ میری اولاد میں سے ایک آدمی جس کا پوری دنیا میں حکمرانی میں پانچواں نمبر ہو گا، آئیگا (اور پوری دنیا کا مالک ہو جائے گا) اس کا نام مہدی ہو گا“

### جنگ خلیج کے بعد کیا ہو گا؟

جنگ خلیج سے فارغ ہونے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر یہ افواہ اڑے گی کہ دجال نکل آیا۔ لیکن یہ خبر جھوٹی ہو گی تاہم کچھ عرصے بعد واقعہ دجال نکل آئے گا اور زمین میں خوب قند و فساد پھیلائے گا (جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں) اور مخلوقی

خدا کو گراہ کرتا ہوا دمشق پہنچ گا، حضرت امام مہدیؑ بھی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، وہ مسلمانوں کو جمع کر کے دجال کے ساتھ مقابلہ کا ارادہ کر لیں گے۔ لیکن اس وقت مسلمان انتہائی ختنی کے عالم میں ہوں گے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کا دجال کے ساتھ تکڑاؤ بیت المقدس میں

ہوگا۔ ملاحظہ ہو:

﴿يَحَاصِرُ الدِّجَالُ الْمُؤْمِنِينَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي صِبَابِهِمْ  
جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّىٰ يَا كَلْوَا أَوْتَارَ قَسِيمِهِمْ مِنَ الْجُوعِ  
فَبِينَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا سَمِعُوا أَصْوَاتًا فِي الغَلَسِ  
فَيَقُولُونَ أَنَّ هَذَا الصَّوْتُ رَجُلٌ شَبَّاعٌ فَيَنْظَرُونَ فَإِذَا  
بَعِيسَىٰ ابْنُ مَرِيمٍ فَتَقامُ الصَّلْوَةُ فَيَرْجِعُ امَامُ الْمُسْلِمِينَ  
الْمَهْدِيُّ فَيَقُولُ عِيسَىٰ تَقْدُمْ فَلَكَ اقْيَمَتِ الصلوة  
فِي صَلَّىٰ بِهِمْ ذَلِكَ الرَّجُلُ تَلَكَ الصلوةٌ قَالَ ثُمَّ  
يَكُونُ عِيسَىٰ امَاماً بَعْدَهُ﴾

(کتاب البرہان: ج ۲ ص ۸۰۵)

”دجال بیت المقدس میں مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا اور مسلمان سخت بھوک کا شکار ہوں گے حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے اپنی کمانوں کی تانیں کھالیں گے اور اسی حال میں ہوں گے کہ طلوع صبح صادق کے بعد کچھ آوازیں سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے آدمی کی آواز ہے چنانچہ لوگ دیکھیں گے تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے، اقامت ہو چکی ہو گی، مسلمانوں کے امام مہدیؑ پیچھے کوہیں گے (اور کہیں گے کہ آئے؟ نماز پڑھائیے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ہی آگے رہ کر (نماز پڑھاؤ) کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے ہی لیے ہوئی

ہے چنانچہ وہ نمازوں امام مہدی پڑھائیں گے اور بعد کی نمازوں میں  
حضرت عیسیٰ امامت فرمائیں گے۔

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ نے اپنی کتاب ”علامات قیامت اور  
نزول مسیح“ میں علمات قیامت کو ترتیب زمانی کے ساتھ مرتب فرمایا ہے۔ یہاں اس  
موضع سے متعلق ان کی بیان کردہ ترتیب کو نقل کیا جاتا ہے:

”یہاں تک کہ مومنین اردن و بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے  
اور دجال شام میں (فلسطین کے ایک شہر تک) پہنچ جائے گا (جو  
باب لہ پر واقع ہوگا) اور مسلمان ”افیق“ نامی گھانی کی طرف سمت  
جائیں گے، یہاں سے وہ اپنے مویشی چڑنے کے لیے بھیجن گے  
جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، بالآخر مسلمان (بیت  
القدس کے) ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام ”جلل  
الدخان“ ہے اور دجال (پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر)  
مسلمانوں (کی ایک جماعت) کا ححاصرہ کر لے گا، یہ ححاصرہ سخت  
ہو گا جس کے باعث مسلمان سخت مشقت (اور فقر و فاقہ) میں بتلا  
ہو جائیں گے حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کی تانت جلا کر کھائیں  
گے۔ دجال آخری بار ”اردن“ کے علاقے میں ”افیق“ نامی گھانی  
پر نمودار ہوگا، اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو  
گا، وادی اردن میں موجود ہوگا، وہ ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کر  
دے گا، ایک تہائی کو نکست دے گا اور صرف ایک تہائی مسلمان  
باقي بچیں گے (جب یہ ححاصرہ طول کھینچ گا) تو مسلمانوں کا امیران  
سے کہے گا کہ (اب کس کا انتظار ہے) اس سرکش سے جنگ کرو  
(تاکہ شہادت یافت میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے) چنانچہ  
سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صحیح ہوتے ہی (نماز فجر کے بعد)

دجال سے جنگ کریں گے۔“

وہ رات سخت تاریک ہو گی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی۔ (کہ تمہارا فریادرس آپنچا) لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ غرض (نماز فجر کے وقت) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔

نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کانڈھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔“ (علامات قیامت اور نزول سجح ص ۱۵۲ تا ۱۵۵)

اسی کتاب کے ص ۱۵۷ پر ”مقام نزول، وقت نزول اور امام مہدیؑ“ کا عنوان قائم کر کے تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سوت میں سفید مینارے کے پاس (یا بیت المقدس میں امام مہدیؑ کے پاس) ہو گا۔ اس وقت امام (مہدیؑ) نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہو گی، امام (مہدیؑ) حضرت عیسیٰ کو امامت کے لیے بلا میں گے مگر وہ انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ (یہ امت کا اعزاز ہے کہ) اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام (مہدیؑ) پیچھے ہٹنے لگیں گے تو آپ (ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر) فرمائیں گے تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے، چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدیؑ ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے اور رکوع سے اٹھ کر ”سمع اللہ لمن حمده“ کے بعد یہ جملہ فرمائیں گے۔ ”قُلَّ اللَّهُ الدِّجَالُ وَأَظْهَرُ الْمُؤْمِنِينَ۔“

”غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ

کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہو گا اور اس کے ساتھ ستر ہزار مسلح یہودی ہوں گے، آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔۔۔ ان۔۔۔“

روايات کی اس تفصیلی ترتیب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کے بعد ان کی کفار و مشرکین اور یہود و نصاری سے خوزیر جنگیں ہوں گی حتیٰ کہ جنگ خلیج (جنگ قطنهظیر) سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا جس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، نزول عیسیٰ کے بعد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہو گا اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرداز کے ان کے تابع ہو جائیں گے اور دوسال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں رہ کر انقال فرما جائیں گے۔

جبکہ بعض علماء کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول عیسیٰ کے بعد بھی انتظامی معاملات حضرت امام مہدیؑ کے پاس ہی رہیں گے اور امام مہدیؑ کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ ان کو سنجدال لیں گے اور اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کیونکہ اگر امام مہدیؑ ہی خلیفہ و منتظم ہوں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کی وفات﴾

### ﴿اور ان کی مدت حکومت﴾

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب اپنے رسالہ ”علامات قیامت“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کی خلافت کی میعاد سات یا آٹھ یا نو سال ہو گی۔ واضح رہے کہ سات سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں،

آنھواں سال دجال کے ساتھ جنگ وجدال میں اور نواں سال حضرت عیسیٰ کی معیت میں گزرے گا اس حساب سے آپ کی عمر ۳۹ سال کی ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے، اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آجائیں گے۔“

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی تحریر فرماتے ہیں:

”روایات و آثار کے مطابق ان کی عمر چالیس برس کی ہوگی جب ان سے بیعت خلافت ہوگی۔ ان کی خلافت کے ساتویں سال کانا دجال نکلے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دو سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے اور ۳۹ برس میں ان کا وصال ہوگا۔“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱ ص ۲۶۸)

### ظهور کے وقت امام مہدیؑ کی عمر:

ظهور کے وقت حضرت امام مہدیؑ کی عمر کے سلسلے میں مختلف روایات موجود ہیں لیکن ان میں سے کسی روایت کو ترجیح دینا یا ان مختلف روایات میں تطبیق دینا بہت مشکل ہے البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ مختلف روایات میں مختلف موقع کی مدت بیان کی گئی ہو۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے کتاب القتن ص ۲۵۸ اور ص ۲۵۹ پر اس قسم کے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔

- (۱) کعب فرماتے ہیں کہ امام مہدیؑ کی عمر ۱۵ یا ۵۲ سال ہوگی۔
- (۲) عبد اللہ بن الحارث کہتے ہیں کہ امام مہدیؑ کی عمر خروج کے وقت ۴۰ سال ہو گی۔ (غالباً اسی پر شاہ رفیع الدین نے جزم فرمایا ہے)

(۳) صقر بن رشم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدیؑ جب حجاز سے دمشق پہنچ کر اس کی جامع مسجد کے منبر پر رونق افروز ہوں گے تو ۱۸ سال کے ہوں گے۔

(۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت کے آخر میں ان کے ظہور کے وقت ۲۰ سے ۳۰ سال کے درمیان عمر کا بیان ہے۔

(۵) ارطاة کے کہتے ہیں کہ امام مہدیؑ کی عمر ۲۰ سال ہوگی۔

(۶) ”القول المختصر“ ص ۲۷ پر امام مہدیؑ کی مدت حکومت سات سال بیان کی گئی ہے جبکہ اسی کتاب کے ص ۵۳ پر تمیں یا چالیس سال کی ذکر کی گئی ہے اور ص ۵۸ پر ۳۹ سال، زمین پر ٹھہر نے کی مدت ۳۰ سال، اس سے الگی طریقہ ان کی زندگی کا تیس سالہ ہونا مذکور ہے۔ نیز ۱۳ اسال کا بھی ذکر موجود ہے۔

ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ اکثر روایات میں حضرت امام مہدیؑ کی عمر ۲۰ سال مذکور ہے اس لیے اس سے مراد حضرت امام مہدیؑ کی عمر کا وہ حصہ ہے جو بیعت سے پہلے انہوں نے گزارا ہوگا یعنی بیعت کے وقت ان کی عمر ۲۰ سال ہوگی، اس کے بعد سات سال تک وہ مند خلافت پر رونق افروز رہیں گے جیسا کہ علامہ ابن حجر الطیبؓ نے اپنی کتاب القول المختصر کے ص ۲۷ پر اسی کو مشہور قرار دیا ہے اور چونکہ یہ سات سال ان کی مدت حکومت کے ہوں گے جس کے بعد بھی وہ زندہ رہیں گے اس لیے اتنی مدت تو ماننا پڑے گی جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجال کے لشکر سے مقابلہ کرنے میں شریک ہو سکیں لیکن روایات سے اس کی تعین نہیں ہوتی البتہ شاہ رفیع الدینؒ اور حضرت لدھیانوؒ نے تجھیں سات سال مدت حکومت کے بعد دوسال مزید ذکر کیے ہیں۔

جبکہ طبرانی میں حضرت ابوالاممہؓ سے ایک مرفوع روایت منقول ہے جس میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ حضور ﷺ نے امام مہدیؑ کی عمر ۲۰ سال ذکر فرمائی اور پھر فرمایا۔

﴿یملک عشر سنین﴾

”وہ دس سال حکومت کریں گے۔“

اس مرفوع روایت کو لینے کے بعد مذکورہ تفہیق پھر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں تو واضح طور پر ان کی مدت حکومت دس سال ذکر کی گئی ہے۔ واللہ اعلم بحقيقة الكلام۔

**امام مہدیؑ کا انتقال طبعی ہوگا:**

البتہ اتنی بات ضرور واضح ہے کہ حضرت امام مہدیؑ اپنی مقررہ مدت عمر پوری کرنے کے بعد اپنی طبعی موت سے انتقال فرمائیں گے چنانچہ شیخ علی متفق نے کتاب البرہان ج ۲ ص ۸۳۶ پر نقل کیا ہے۔

﴿تمریموت علی فراشہ﴾

”پھر امام مہدیؑ کا اپنے بستر پر انتقال ہو جائے گا۔“

یعنی وہ طبعی طور پر وفات پا جائیں گے، امام مہدیؑ کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس ہی میں سپرد خاک کر دیں گے چنانچہ حضرت کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں:

﴿ووصلی علیہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام ویدفہ فی بیت

المقدس کذافی شرح العقیدۃ السفارینیۃ ص ۸۱ ج ۲﴾

(التعليق الصريح ج ۲ ص ۲۰۵)

”اور ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس میں دفن کریں گے۔“

## باب ششم

### احادیث و آثار متعلقہ بالامام المہدیؑ

ظہور مہدیؑ سے متعلق صحیحین کی آثار روایات

نیز ۲۷ صحابہ و صحابیات علیہم الرضوان کی

ظہور مہدیؑ سے متعلق مردویات

## ﴿احادیث و آثار متعلقہ بالامام المهدی﴾

اس سے قبل ظہور مهدی کے متعلق عقیدے کی تفصیلی بحث میں آپ ان صحابہؓ و صحابیاتؓ کے اسماء گرامی مع حوالہ جات پڑھ چکے ہیں جن سے امام مهدیؑ کے متعلق روایات مردی ہیں۔ یہاں ان کی روایات ذکر کی جاتی ہیں اور اس سے قبل وہ روایات بھی ذکر کرنا نقصود ہیں جو امام مهدیؑ سے متعلق صحیحین (بخاری و مسلم) میں موجود ہیں، اس سے بعض لوگوں کے اس اعتراض کا بھی جواب جائے گا کہ روایات مهدیؑ صحیحین میں نہیں۔

## ﴿صحیحین کی وہ روایات جو امام مهدیؑ سے متعلق ہیں﴾

(۱) صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

﴿قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ أَبْنَى مُرِيْحَةً فِي كُمْ وَأَمَّا مِنْكُمْ مِنْ كُمْ﴾ (بخاری ۳۲۲۹، مسلم حدیث نبرد ۳۹۲)

”حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں کا ہو گا“

اس حدیث کی شرح میں ملاعیل قاری ”و امامکم منکم“ کے مصدق پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

﴿مَنْكُمْ أَيُّ مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ وَقَلِيلٌ مِنْ قَرِيبِكُمْ وَهُوَ الْمَهْدِيُّ

وَالْحَاصِلُ عَلَى إِنْ كُمْ وَاحِدٌ مِنْكُمْ دُونَ عِيسَىٰ فَإِنَّهُ بِمُنْزَلَةِ

الْخَلِيفَةِ وَقَلِيلٌ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِنْ عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْمَّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِلِ

مَقْرَرٍ لِلْمُلْتَهِ مَعِينَ الْأَمْتَهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ

قَالَ مَعْمَرٌ وَأَنْكُمْ وَأَمَّا مِنْكُمْ وَقَالَ أَبْنَى ذَنْبَ عَنْ

ابن شہاب فاما مکم منکم قال ابن ابی ذئب فی معناه  
 فاما مکم بكتاب ربکم وسنة نبیکم قال الطیسی رحمه اللہ  
 فالضمیر فی "اماکم" لعیسیٰ "ومنکم" حال ای یؤمکم  
 عیسیٰ حال کونہ من دینکم ویحتمل ان یکون معنی  
 "اما مکم منکم" کیف حالکم وانتم مکرمون عند اللہ  
 تعالیٰ والحال ان عیسیٰ ینزل فیکم واما مکم منکم  
 وعیسیٰ یقتدى باما مکم تکرمة لدینکم\*

(مرقاۃ المغایث: ج ۱۰ ص ۲۳۲)

"تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا" کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا امام  
 تمہارے ہی اہل دین میں سے ہوگا (کسی اور شریعت یا کتاب پر  
 عامل نہیں ہوگا) اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قریش ہیں  
 (تمہارا امام قریش میں سے ہوگا) اور اس امام کا نام مہدی ہوگا۔  
 خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہارا امام تم ہی میں کا ایک فرد ہوگا  
 نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے امام ہوں گے کیونکہ وہ  
 بمنزلہ خلیفہ کے ہوں گے چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث  
 میں اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ امت محمدیہ میں  
 سے نہیں ہوں گے بلکہ ملت محمدیہ کی تقویت اور امت محمدیہ کی  
 اعانت کے لیے تشریف لا نہیں گے۔

شرح السنہ میں ہے کہ معاشرے اس حدیث کا یہ مطلب  
 بیان کیا ہے کہ تم تو (مقتدی) ہو گے ہی، تمہارا امام بھی تم ہی میں  
 سے ہوگا۔ اور ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے "فاما مکم  
 منکم" کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی  
 روشنی میں تمہاری امامت کریں گے۔

علامہ پنجی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں "امکم" کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے گی اور "منکم" ترکیب میں حال واقع ہو گا اور مطلب یہ ہو گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کے مطابق تمہاری امامت کریں گے (انجیل پر نہ خود عمل کریں گے اور نہ دوسروں کو عمل کرائیں گے)۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ "اما مکم منکم" کا معنی یہ ہو کہ تم ایک معزز قوم ہو اور تمہاری عزت کا اس وقت کیا حال ہو گا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہو گا نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دینی اعزاز و اکرام کی بناء پر تمہارے امام کی اقتداء کریں گے۔"

حضرت مولا ناسید بدر عالم مہاجر مدینی "اس حدیث کے تحت قطر از ہیں: "حدیث مذکور میں "اما مکم منکم" کی شرح بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدیہ ہی پر عمل فرمائیں گے اس لحاظ سے گویا وہ ہم ہی میں سے ہوں گے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد امام مهدی ہیں اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے زمانے میں نازل ہوں گے جب کہ ہمارا امام خود ہم ہی میں ایک شخص ہو گا۔ ان دونوں صورتوں میں امامت سے مراد امامت کبریٰ یعنی امیر و خلیفہ ہے۔"

اس مضمون کے ساتھ صحیح مسلم میں "فیقول امیر هم تعال صل لنا" کا دوسرا مضمون بھی آیا ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہو گا اور امام مصلیٰ پر جا چکا ہو گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو دلیک کروہ امام پیچھے بننے کا ارادہ کرتے

گا اور عرض کرے گا کہ آپ آگے تشریف لا میں اور نماز پڑھائیں  
مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کو امامت کا حکم فرمائیں گے اور یہ  
نماز خود اسی کے پیچھے ادا فرمائیں گے، یہاں امامت سے مراد  
امامت صغیر یعنی نماز کا امام مراد ہے۔

اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں مضمون بالکل عیحدہ عیحدہ ہیں  
اور آخرین حضرت مسیح پیغمبر ﷺ سے اسی طرح عیحدہ عیحدہ منقول ہوئے  
ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لفظ ”وامامکم  
منکم“ سے پہلا مضمون مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ  
السلام کے نزول کے زمانے میں مسلمان کا امیر ایک نیک شخص ہو گا  
جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث میں اس کی وضاحت آچکی ہے ملاحظہ  
فرمائیے۔ ترجمان السنیۃ / ۳ - ۱۵۸۶ - اس میں ”وامامکم منکم“  
کی بجائے ”وامامکم رجل صالح“ صاف موجود ہے یعنی  
تمہارا امام ایک مرد صالح ہو گا۔ ..... لہذا جب صحیح مسلم کی  
ذکورہ بالا حدیث میں یہ معین ہو گیا کہ امام سے امیر و خلیفہ مراد ہے  
تو اب بحث طلب بات صرف پیدا ہتی ہے کہ یہ امام اور رجل صالح  
کیا وہی امام مہدی رضی اللہ عنہ ہیں یا کوئی دوسرا شخص۔ ظاہر ہے کہ  
اگر دوسری روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس امام اور رجل صالح  
سے مراد امام مہدی ہی ہیں تو پھر امام مہدی کی آمد کا ثبوت خود  
جیسیں میں مانتا پڑے گا۔ اس کے بعد اب آپ وہ روایات ملاحظہ  
فرمائیں جن میں یہ ذکور ہے کہ یہاں امام سے مراد امام مہدی ہی  
ہیں۔

یہ واضح رہنا چاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول  
کے زمانے میں کسی امام عادل کا موجود ہونا جب صحیح ہے ثابت

ہے اور اس دعویٰ کے لئے کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں کہ وہ ”امام مہدی“ نہ ہوں گے بلکہ کوئی اور امام ہو گا تو اب اس امام کے امام مہدی ہونے کے انکار کے لئے کوئی معقول وجہ نہیں ہے بالخصوص جب کہ دوسری روایات میں اس کے امام مہدی ہونے کی تصریح موجود ہے۔ اسی کے ساتھ جب صحیح مسلم کی حدیثوں میں اس امام کی صفات وہی ہیں جو حضرت امام مہدی کی صفات ہیں تو پھر ان حدیثوں کو بھی امام مہدی کی آمد کا ثبوت تسلیم کر لیتا چاہیئے۔ اس کے علاوہ حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جو اگرچہ بمعاظ اسناد ضعیف سہی لیکن صحیح و حسن حدیثوں کے ساتھ ملا کروہ بھی امام مہدی کی آمد کی جدت کہا جا سکتا ہے۔

(ترجمان السنیرج ص ۵۸)

۲۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے  
 ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَالِ طائِفَةً مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الظَّاهِرَتِ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ قَالَ فَيَنْزَلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضًا إِنَّمَا تَكْرَمُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ﴾ (رواہ مسلم۔ ۳۹۰۔ مشکوٰۃ المعاجم ص ۲۸۰)

”حضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر مقابل کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی، فرمایا کہ پھر عیسیٰ ابن مريم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا کہ آئیے! اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گئے نہیں! بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں اس امت کی عند اللہ عزت و شرافت کی وجہ سے۔“

اس روایت میں اگرچہ امام مہدیؑ کے نام کی تصریح نہیں تاہم دیگر قوی شواہد و  
قرآن کی رشی میں اس حدیث کا مصدق امام مہدی رضوان اللہ عنہ ہی قرار پاتے ہیں۔  
۳۔ نیز صحیح مسلم ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت منقول ہے کہ حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿بِكُونَ فِي أَخْرَ امْتِ خَلِيفَةٍ يَحْشِي الْمَالَ حَتَّى لَا يَعْدُهُ  
عَدًّا قَالَ قَلْتُ لَا بِنَ نَضْرَةٍ وَ لَا بِالْعَلَاءِ اتَّرِيَانَ إِنَّهُ عُمَرَ بْنَ  
عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَ لَا﴾ (رواہ مسلم. ۲۱۵)

”میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہو گا جو لوگوں کو بغیر شمار کئے  
لپ بھر کر مال دے گا۔ (حدیث کے ایک راوی جریری کہتے  
ہیں) کہ میں نے ابو نظرہ اور ابو العلاء سے پوچھا کہ کیا آپ کی  
رائے میں وہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہیں تو ان دونوں نے نفی میں  
جواب دیا۔“

اس قسم کی احادیث مسلم شریف میں ۳۱۹۶، ۳۱۵۷ ملاحظہ فرمائیں۔

احادیث مذکورہ میں اگرچہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے نام کی صراحت نہیں ہے  
لیکن محدثین کرام ان احادیث کا مصدق امام مہدی رضی اللہ عنہ ہی کو قرار دیتے ہیں نیز  
حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت میں امام مہدی  
رضی اللہ عنہ کے نام کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان نے اپنی  
کتاب ”الاذاعہ“ کے آخر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی مسلم کی اس روایت  
پر امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق احادیث کو ختم کر کے تحریر فرمایا ہے۔

﴿وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ الْمَهْدَىٰ وَ لَكِنْ لَا مَحْمَلَ لَهُ وَ لَا مَثَالٌ  
لَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا الْمَهْدَىٰ الْمُنْتَظَرُ كَمَا دَلَّتْ عَلَى  
ذَلِكَ الْأَخْبَارُ الْمُتَقْدِمَةُ وَ الْآثَارُ الْكَثِيرَةُ﴾

”اس حدیث میں اگرچہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں لیکن احادیث میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اس کا کوئی محل اور مثال موجود نہیں جیسا کہ اس پر گذشتہ احادیث اور بکثرت وارد شده آثار دلالت کرتے ہیں۔“

۲۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے جو کہ حکماً مرفوع ہے اس لئے کہ اپنی طرف سے ایسی بات کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا تو قتیلہ اس نے حضور ﷺ سے اس کو سانہ ہو۔ علامہ سیوطیؒ نے الحاوی للغناوی جلد دوم میں اس پر کافی شافی بحث فرمائی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقْرُمُ حَتَّىٰ  
لَا يَقْسُمُ مِيرَاثًا وَلَا يَفْرَحَ بِغَيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكُذا وَ  
نَحَاهَا حَوْلَ الشَّامِ فَقَالَ عَدُوُّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ  
وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ قَلْتُ الرُّومُ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ  
وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقَتْالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ فَيَشْرُطُ  
الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ الْأَغْالَبَةَ فَيَقْتَلُونَ  
حَتَّىٰ يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ الْلَّيلَ فِيهِ هُؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ كُلُّ غَيْرِ  
غَالِبٍ وَتَفْنِي الشَّرْطَةَ ثُمَّ يَشْرُطُ الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً  
لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ الْأَغْالَبَةَ فَيَقْتَلُونَ حَتَّىٰ يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ  
الْلَّيلَ فِيهِ هُؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ كُلُّ غَيْرِ غَالِبٍ وَتَفْنِي  
الشَّرْطَةَ ثُمَّ يَشْرُطُ الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ  
الْأَغْالَبَةَ فَيَقْتَلُونَ حَتَّىٰ يَمْسَا فِيهِ هُؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ كُلُّ  
غَيْرِ غَالِبٍ وَتَفْنِي الشَّرْطَةَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ  
نَهَدَ إِلَيْهِمْ بِقِيَةَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ  
فَيَقْتَلُونَ مَقْتَلَةً إِمَامًا قَالَ لَا يَرِي مَثَلَهَا وَإِمَامًا لَمْ يَرِمَثَهَا

حتى ان الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى  
يخر ميتا فيتعاد بنو الاب كانوا مائة فلا يجدونه بقى  
منهم الا الرجل الواحد فبای غنيمة يفرح او ای ميراث  
يقاسم فيبناتهم كذلك اذ سمعوا بیام هواكبز من  
ذلك فجاءهم الصريح ان الدجال قد خلفهم في  
ذراريهم فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون فيبعثون  
عشر فوارس طليعة قال رسول الله ﷺ اني لا عرف  
اسماؤهم واسماء آبائهم والوان خيولهم هم خير  
فوارس او من خير فوارس على ظهر الارض يومئذ )

(رواہ مسلم، ۲۸۱، مشکوہ المصائب ص ۳۶۷)

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ (ایسا وقت نہ آجائے کہ) میراث تقسیم نہیں ہوگی اور مال غنیمت سے خوشی نہیں ہوگی (کیونکہ جب کوئی وارث ہی نہیں رہے گا تو ترک کون بانٹے گا اور جب کوئی لڑائی سے زندہ ہی نہیں بچے گا تو مال غنیمت کی کیا خوشی ہوگی؟) پھر اپنے ہاتھ سے شام کی طرف سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اہل اسلام سے لڑنے کے لئے دشمن جمع ہوں گے۔ مسلمان بھی ان سے لڑنے کے لئے اکٹھے ہوں گے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا دشمنوں سے مراد روی ہیں؟ فرمایا ہاں! اور اس موقع پر شدید لڑائی ہوگی چنانچہ مسلمان ایک جماعت کو لڑنے کے لئے بھیجن گے جو یہ شرط سلسلہ کیمیہ گے کہ یا تو مر جائیں گے یا پھر غالب ہو کر واپس آئیں گے، چنانچہ وہ جا کر اتنا لڑیں گے کہ رات ان کے درمیان حاصل ہو جائے گی اور دونوں فوجیں ہارجیت کے فیصلے کے بغیر واپس

آجائیں گی اور مرنے کی نیت سے جانے والا اسلامی دستہ مکمل شہید ہو جائے گا اور تین دن تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔

چوتھے دن بقیہ تمام مسلمان حملہ کے ارادہ سے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن کافروں کو خلکت دے دیں گے اور ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے نہ دیکھی گئی ہوگی (اور لاشون کا اس قدر انبار لگ جائے گا کہ) ایک پرندہ ان پر سے اڑ کر گز رنا چاہے گا لیکن (شدت تعفن یا طول مسافت کی وجہ سے) اس میدان کو عبور کرنے سے پہلے گر کر مر جائے گا، اس کے بعد جب مردم شماری کی جائے گی تو اگر مثلاً کسی آدمی کے سوابیتے تھے ان میں سے صرف ایک زندہ بچا ہوگا اور باقی سب شہید ہو چکے ہوں گے تو ایسی حالت میں کون سے مال غنیمت سے خوشی ہوگی یا کون سی وراثت تقسیم ہوگی۔ ابھی مسلمان اسی حالت میں ہوں گے کہ اس سے بڑی آفت کی خبر سنیں گے چنانچہ ایک شخص چیخ کر کہہ گا کہ دجال ان کے چیخپے ان کے بچوں میں آگھا ہے۔ مسلمان یہ خبر سنتے ہی اپنے پاس موجود تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور (تحقیق حال کے لئے) مقدمۃ الجیش کے طور پر دس سواروں کا ایک دستہ بھیجیں گے جن کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں ان سواروں اور ان کے بالپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں تک کو جانتا ہوں اور وہ اس وقت روئے زمین کے بہترین شہسواروں میں سے ہوں گے۔

(فائدہ): اس حدیث میں اگرچہ بظاہر امام مہدیؑ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں لیکن محمد بن کرام نے اس کو انہی کے زمانے پر محمول کیا ہے کیونکہ یہ واقعہ انہی کے زمانے میں پیش آئے گا جیسا کہ آپ گذشتہ اوراق میں بالتفصیل پڑھ آئے تیں۔ لہذا اس روایت سے بھی

ظہور مہدی کا ثبوت ملتا ہے۔

۵۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

عن عوف بن مالک قال اتیت النبی ﷺ فی غزوۃ

تبوک و هو فی قبة من ادم فقال اعدد ستابین يدی  
الساعة موتی ثم فتح بیت المقدس ثم مُوتَانٌ ياخذ فيکم  
کفعاص الغم ثم استفاضة المال حتی یعطی الرجل مائة  
دینار فیظل ساخطانیم فتنۃ لا یقی بیت من العرب الا  
دخلته ثم هدنة تكون بینکم و بین بنی الاصفر فیغدرون  
فیاتونکم تحت ثمانین غایۃ تحت کل غایۃ اثنا

عشر الفاً (رواہ البخاری، مشکوہ ص ۲۶۶)

اس سے ملتی جلتی حدیث ابن ماجہ میں بھی ۳۰۳۲ پر موجود ہے۔

”حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس غزوہ تبوک میں آیا جب کہ آپ ﷺ چجزے کے ایک خیے میں تھے۔ (مجھے دیکھ کر) فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھ چیزوں کو شارلو۔ ۱۔ میرا اس دنیا سے انقال۔ ۲۔ بیت المقدس کی فتح۔ ۳۔ عام موت جس طرح بکریوں میں وبا مرض آجائے (اور وہ بکثرت مر نے لگیں)۔ ۴۔ مال کی اتنی بہتات کہ ایک آدمی کو سو دینار دینے جائیں گے تو وہ اس پر بھی ناراض ہو گا۔ ۵۔ پھر ایسا فتنہ پھیلے گا کہ عرب کے برگھر میں داخل ہو جائے گا۔ ۶۔ پھر تمہارے اور رومنیوں کے درمیان صلح ہو گی، وہ دھوکہ بازی سے کام لے کر تمہارے پاس (اس کثرت سے فوجیں لے کر) آئیں گے کہ وہ اسی جہندوں کے نیچے ہوں گے اور بر جہندے کے نیچے پارہ بڑا رپا ہوں گے۔“

فائدہ: اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا سید بدر عالم مہاجر مدفنی "تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قیامت سے قبل چھ علامات کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی تعین میں اگرچہ بہت کچھ اختلافات ہیں اور ان کے ابہام کی وجہ سے ہونے چاہیں لیکن یہ کہنا بے جانہ ہو گا کہ حدیث مذکورہ کے بعض الفاظ حضرت امام مہدیؑ کے خروج کی علامات سے اتنے ملتے جلتے ہیں کہ اگر ان کو ادھر ہی اشارہ قرار دے دیا جائے تو ایک قریبی احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس حدیث کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بحث میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ لحاظ کے بغیر کم محقق ابن خلدون اور ان کے اذناب اس کے معتقد ہیں یا نہیں۔

تبیہ: یہ بات قابلِ تنبیہ ہے کہ علماء کے نزدیک مفہوم عدد معتبر نہیں ہے اس لئے مجھ کو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت سے قبل اس کے ظہور کی چھ علامات ہیں یا کم و بیش۔ یہ وقت اور علامات کی حیثیت شمار کرنے سے مختلف ہو سکتی ہیں ان کا کسی حیثیت سے چھ ہونا بھی ممکن ہے اور کسی لحاظ سے وہ کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ممکن ہے کہ وقت لحاظ سے جن علامات کو آپ نے یہاں شمار کرایا ہے ان کا عدد کسی خصوصیت پر مشتمل ہو۔ یہ بات صرف یہاں نہیں بلکہ دیگر حدیثوں کے موضوع میں بھی اگر آپ کے پیش نظر رہے تو بہت سی مشکلات کے لئے موجب حل ہو سکتا ہے جیسا کہ فضل اعمال کی حدیثوں میں اختلاف ملتا ہے اور اس کو بہت پیچیدگیوں میں ڈال دیا گیا ہے حالانکہ یہ اختلاف بھی صرف وقتی اور شخصی اختلاف کے لحاظ سے پیدا ہو جانا بہت قرین قیاس ہے۔ مگر کیا کہا جائے منطقی عادات نے ہماری ذہنی ساخت کو بدل دیا ہے۔

ع چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدن (ترجمان السنن ۲۹۷ ص ۳۹۷)

نیز اس سے قبل آپ یہ بھی پڑھ آئے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں ہی یہ واقعہ پیش آئے گا لہذا یہ روایت بھی ظہور مہدیؑ کا اثبات کر رہی ہے۔ ۶۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے مسلم شریف میں یہ روایت مروی ہے۔

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿سَلَّمَ﴾ لَا تَقْوُمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَنْزَلَ الرُّومَ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ فِي خَرْجِ الْيَهُودِ جَيْشًا مِّنْ

المدينة من خيار اهل الارض يومئذ فإذا تصافوا قالوا  
 الروم خلوا بیننا وبين الذين سبوا من انقاتلهم فيقول  
 المسلمين لا والله لا نخلع بينكم وبين اخواننا  
 فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا و يقتل  
 ثلثهم افضل الشهداء عند الله و يفتح الثلث لا يفتون  
 ابدا فيفتحون قسطنطينة فيماهم يقتسمون الفنائم قد  
 علقوا سيفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان  
 المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون و ذلك  
 باطل فإذا جاؤ الشام خرج فيناهم يعدون للقتال  
 يسرون الصوف اذ اقيمت الصلوة فينزل عيسى ابن  
 مریم فامهم فإذا رأه عدو الله ذاب كما يذوب الماء  
 في الملح فلو تركه لاذاب حتى يهلك و لكن يقتله  
 الله بيده فيريح دمه في حرثته

(روہ مسلم ۲۲۸، مکملہ ص ۳۶۶)

”حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی  
 جب تک کہ روی اعماق یاداب قنایت جگہ پر پڑا وہ کر لیں چنانچہ ان  
 سے لڑنے کے لئے زمین والوں کے بہترین افراد پر مشتمل ایک  
 لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا، (وہاں پہنچ کر) جب دونوں لشکر  
 صف بندی کر لیں گے تو روی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں  
 کے درمیان سے ہٹ جاؤ جن کو ہم میں سے قیدی بنالیا گیا ہے  
 تاکہ ہم انہی سے لڑ لیں (کیونکہ انہوں نے مسلمان ہو کر ہمارے  
 ساتھ غداری کی ہے)۔ مسلمان کہیں گے کہ اللہ کی قسم! ایسا نہیں ہو  
 سکتا چنانچہ وہ ان سے لڑیں گے حتیٰ کہ ایک تہائی مسلمان شکست کھا

کر بھاگ کھڑے ہوں گے، ان کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے اور ایک تہائی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور یہ آئندہ کسی فتنے میں بدلنا نہ ہوں گے۔

مسلمان قحطانیہ کو فتح کر کے اپنی تواروں کو زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ اچانک شیطان ان میں آ کر چیخ گا کہ تمہارے پیچھے دجال تمہارے گھروالوں میں آ گھسا (یہ خبر سنتے ہی) مسلمان روانہ ہو جائیں گے لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی تاہم مسلمان جب شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔

مسلمان اس سے لڑائی کی تیاری کر کے صفوں کو برابر کر رہے ہوں گے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور (آئندہ نمازوں میں) مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو ایسے پکھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پکھلتا ہے چنانچہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کریں تب بھی وہ گھل کر ختم ہو جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔

**فائدہ:**

اس حدیث میں دو باتیں غور طلب ہیں:

- (۱) "جیش من المدینۃ" میں مدینہ سے کون سا شہر مراد ہے؟
- (۲) "فَاهُمْ" سے کیا مراد ہے؟

پہلی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ماعلیٰ قاریٰ تحریر فرماتے ہیں:

﴿جیش من المدينة قال ابن الملك قيل المراد  
بها حلب، والا عماق و دابق موضعان بقربه و قيل المراد  
بها دمشق وقال في الازهار واما ماقيل من ان المراد بها  
مدينة النبي ﷺ فضعيف لأن المراد بالجيش الخارج  
إلى الروم جيش المهدى بدليل آخر الحديث ولأن  
المدينة المنورة تكون خراباً في ذلك الوقت﴾

(مرقاۃ الفتح: ج ۱۰ ص ۱۳۶)

”مدينة“ سے کیا مراد ہے؟ ابن ملک کہتے ہیں کہ اس میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے شہر حلب مراد ہے اور اعماق و دابق اس کے قریب دو جگہیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے دمشق مراد ہے اور کتاب الازهار میں ہے کہ اس سے مدینہ منورہ مراد لینے کا قول ضعیف ہے اس لیے کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں کی طرف جانے والا شکر امام مهدیؑ کا ہوگا (اور امام مهدیؑ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں ہوں گے) کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ ویران ہوگا۔

جبکہ دوسری بات کی وضاحت کرتے ہوئے ماعلیٰ قاریٰ رقمطر از ہیں:

﴿فامهم وفى روایة قدم المهدى معللاً باى الصلة انما  
اقيمت لك واعشاراً بالمتابعة وانه غير متبع استقلالاً  
بل هو مقرر ومؤيد ثم بعد ذلك يوم بهم على الدوام  
وقوله فامهم فيه تغلب او ترك مجاز اي امرا امامهم  
بالاما ماما ويكون الدجال حينئذ محاصرًا

لل المسلمين﴾ (مرقاۃ الفتح: ج ۱۰ ص ۱۳۸)

”اس روایت میں حضرت عیسیٰ کی امامت کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہوئے امام مہدی کو نماز کے لیے آگے بڑھائیں گے کہ اقامت تہارے لیے ہوئی ہے اور اپنی متابعت کا احساس دلائیں گے نیز یہ کہ امام مہدی مستقل طور پر متبع (امام) نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ ان کی تائید و تقویت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد مستقل طور پر حضرت عیسیٰ ہی نمازیں پڑھائیں گے لہذا حدیث کے اس لفظ ”فَإِمْمَٰٰمٰ“ میں تعلیماً یا ترکیب مجازی کے طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ امامت کریں گے یعنی امامت کا حکم دیں گے اور اس وقت دجال مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہو گا۔“

(۷) اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے:

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفَرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا﴾

(متون غلیہ، بخاری ۱۱۹، مسلم ۲۷۸، مکملة المصنوع: ص ۳۶۹)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہو گا، تم میں سے جو اس موقع پر حاضر ہو، وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔“

فائدہ:

اس کی تفصیل باب پنجم میں گزر چکی ہے اور یہی روایت مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ اضافے کے ساتھ بھی مروی ہے۔

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَحْسِرَ الْفَرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِّنْ ذَهَبٍ يُقْتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مَنْ

کل مائے تسعہ و تسعون ويقول کل رجل منهم لعلی

اکون انا الذی انجو (رواہ مسلم ۲۷۲، مکلوۃ ص ۳۶۹)

”حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو گی تا وقیت کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس میں سے سونے کا پھاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ اس کے حصول کے لیے لوگ آپس میں اس قدر لڑیں گے کہ ہر سو میں سے ننانوے افراد مارے جائیں گے اور اس جنگ میں ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ شاید میں نجح جاؤں۔“

(۸) اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مرفوع روایت بھی منقول ہے:

عن ابی هریرة ان النبی ﷺ قال سمعتم بمدينة جانب منها فی الیرو جانب منها فی البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون القامن بنی اسحق فاذا جاؤ ها لئز لوا فلم يقاتلوا بسلح ولم يرموا بسهم قالوا لا الا الله والله اکبر فيسقط احد جانبيها قال لا اعلمہ الا قال الذی فی البحر ثم يقولون الثانية لا الا الله والله اکبر فيسقط جانبها الاخشم يقولون الثالثة لا الا الله والله اکبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبینما ہم یقتسمون المغانم اذا جاء ہم الصریخ فقال ان الدجال قد خرج ویترکون

کل شی و یرجعون (رواہ مسلم ۳۳۲، مکلوۃ المصانع ص ۳۷)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضور ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ صحابہ

نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا کہ قیامت اس وقت تک  
قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے ستر ہزار افراد اس شہر کے  
لوگوں سے جہاد نہ کر لیں چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے  
تو نہ الحجہ سے لڑیں گے اور نہ تیر چھیننے کی نوبت آئے گی، صرف  
ایک مرتبہ ”لا الہ الا اللہ والله اکبر“ کہنے سے شہر پناہ کا ایک  
 حصہ گر جائے گا۔“

ثور بن یزید کہتے ہیں کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ میرے شیخ نے یہ کہا  
تھا کہ اس سے مراد سمندر کی جانب والی دیوار ہے۔ پھر مسلمان  
دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو شہر پناہ کا دوسرا حصہ بھی گر جائے گا  
اور تیسرا مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرنے سے اتنی کشادگی ہو جائے گی کہ  
سارے مسلمان شہر میں داخل ہو (کراس پر قابض ہو) جائیں گے  
اور مال غنیمت حاصل کر کے ابھی اسے تقسیم کر ہی رہے ہوں گے  
کہ ایک آدمی جنح کر کہے گا کہ وجال نکل آیا۔ مسلمان یہ خبر سن کر  
سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرو اپس چلے جائیں گے۔“

### فائدہ:

اس حدیث میں اولاً تو یہ بات ملحوظ رہے کہ یہاں بنو اسحاق کے ستر ہزار افراد کا  
ذکر ہے اور بعض روایات میں بنو اسماعیل کے ستر ہزار افراد کا ذکر ہے اور بقول علامہ ابن  
حجر یتمی کی<sup>۱</sup> کے بنو اسماعیل ہی راجح ہے۔ (ملاحظہ ہو القول المختصر ص ۲۸)

ثانیاً یہ کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قسطنطینیہ کا ہے جو حضرت  
امام مہدیؑ کے زمانے میں فتح ہو گا لہذا اس روایت سے بھی ظہور مہدیؑ کا ثبوت ملتا ہے۔  
مولانا بدر عالم اس موقع پر فرماتے ہیں:  
”دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قسطنطینیہ کا ہے۔“

یہاں نعرہ تکمیر سے شہر کے فتح ہو جانے پر تجوب کرنے والے مسلمان ذرا غور و فکر کے ساتھ ایک بار اپنی گذشتہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کو معلوم ہو گا کہ مسلمانوں کی فتوحات کی تاریخ اس قسم کے عجائبات سے معمور ہے اور حق یہ ہے کہ اگر اس قسم کی غیبی امدادیں ان کے ساتھ نہ ہوتیں تو اس زمانے میں جبکہ نہ دخانی جہاز تھے، نہ فضائی طیارے اور نہ موڑ۔ پھر ربع سکون میں اسلام کو پھیلا دینا یہ کیسے ممکن تھا آج جب کہ مادی طاقتون نے سیرو سیاحت کا مسئلہ بالکل آسان کر دیا ہے جس حصہ زمین میں ہم پہنچتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ علاء بن حضرمی صحابی اور ابو مسلم خواریؑ کا ممع اپنی فوج کے سندروں کو خشکی کی طرح عبور کر جانا تاریخ کا واقعہ ہے۔ خالد بن ولیدؑ کے سامنے مقام حیرہ میں زہر کا پیالہ پیش ہونا اور ان کا اسم اللہ کہہ کر نوش کر لینا اور اس کا نقصان نہ کرنا بھی تاریخ کی ایک حقیقت ہے، سفینہ (آپ ﷺ کے غلام کا نام ہے) کا روم میں ایک جگہ گم ہو جانا اور ایک شیر کا گردن جھکا کر ان کو شکر تک پہنچانا اور حضرت عمرؓ کا مدینہ میں منبر پر اپنے جزل ساریہ کو آواز دینا اور مقام نہاؤند میں ان کا سن لینا اور حضرت عمرؓ کے خط سے دریائے نیل کا جاری ہونا یہ تمام تاریخ کے مستند حقائق ہیں۔“

”ان واقعات کے سوا جو بسلسلہ سند ثابت ہیں ہندوستان کے بہت سے عجیب واقعات ایسے بھی ثابت ہیں جن میں سے کئی ایک کی شہادت تو انگریزوں کی زبان سے ثابت ہے۔“

(ترجمان الم: ج ۳ ص ۳۹۳)

(۹) خانہ کعبہ پر حملہ کیلئے سفیانی کی طرف سے بھیجے جانے والے لشکر اور اس کے زیریں دھنسنے کا واقعہ بخاری شریف میں بھی حدیث نمبر ۲۱۱۸ پر موجود ہے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس واقعے سے بھی اشارۃ امام مہدیؑ کا ثبوت بخاری میں ہی مل جاتا ہے۔

## ﴿روایات صحابہ دربارہ مہدی رضوان اللہ علیہ﴾

امام مہدیؑ سے متعلق صحیحین کی روایات آپ ملاحظہ فرمائچے اب ان صحابہؓ و صحابیاتؓ کی روایات نقل کی جاتی ہیں جو امام مہدیؑ سے متعلق روایات کے ناقل ہیں اور ان کے اسماء گرامی آپ باب اول میں پڑھائے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں ناموں کی اسی ترتیب سے باضافہ عنوانات روایات مع ترجمہ کے نقل کرنا مقصود ہے، تشریفات گذشتہ ابواب میں گزر چکی ہیں۔ امید ہے کہ اس سے قارئین فائدہ جدیدہ حاصل کریں گے اور اکتاہٹ محسوس نہ کریں گے۔

### (۱) ﴿حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

خزانۃ بیت اللہ کو تقسیم کرنے والے:

﴿عن عمر بن الخطاب انه ولح البيت وقال والله ما ادرى ادع خزانة البيت وما فيه من السلاح والاموال او قسمه في سبيل الله؟ فقال له علي بن ابي طالب امض يا امير المؤمنين فلست بصاحبہ انما صاحبہ متاب من قريش يقسمه في سبيل الله في آخر الزمان﴾

(کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۵۲)

”ایک مرتبہ حضرت عمرؓ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم! مجھے کبھی نہیں آرہا کہ میں بیت اللہ کے خزانے، اس کے اسلحہ اور مال و دولت کو چھوڑے رکھوں یا راہِ خدا میں تقسیم کر دوں؟ تو حضرت علیؓ نے فرمایا اے امیر المؤمنین! اس کو چھوڑ دیجئے کہ آپ اس کو تقسیم کرنے والے نہیں بلکہ اس کو تقسیم کرنے والا قریش میں سے ہم میں کا ایک نوجوان آخر زمانے میں ہو گا جو اس کو تقسیم کرے گا۔“

محدثین کرام نے اس حدیث کا مصدق امام مهدیؑ کو قرار دیا ہے۔ نیز یہ کہ اگر امام مهدیؑ کا ظہور برحق نہ ہوتا تو حضرت عمرؓ نورا حضرت علیؑ کی اس بات کا انکار کر دیتے۔ لیکن ان کا انکار منقول نہیں، معلوم ہوا کہ امام مهدیؑ کا ظہور برحق ہے۔

### (۲) ﷺ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت

امام مهدیؑ، اولاد عباسؓ میں سے؟

﴿عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ يَقُولُ

الْمَهْدَى مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ عَمِى﴾ (کتاب البران: ج ۲ ص ۵۹)

”حضرت عثمان غنیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مهدی، میرے پچھا عباس کی اولاد میں سے ہوں گے۔“

اس حدیث پر بظاہر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ امام مهدیؑ تو حضرت فاطمہؓ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اس روایت میں حضرت عباسؓ کی اولاد میں سے ہونے کا تذکرہ ہے؟ اس کا جواب اسی رسالے کے باب دوم میں گزر چکا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں:

### (۳) ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت

خلافت کے لیے امام مهدیؑ کو تیار کرنا:

﴿عَنْ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ الْمَهْدَى مِنْكُمْ أَهْلُ

الْبَيْتِ يَصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ﴾ (مسند ابی یعلی الموصی: ج ۱ ص ۲۵۹)

”حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مهدی تم (میرے) اہل بیت میں سے ہو گا جس کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں کر دیں گے۔“

(۲) ﴿حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

ظهور مہدیؑ سے قبل کے واقعات:

﴿روى من حديث معاوية بن أبي سفيان في حديث فيه طول عن النبي ﷺ قال ستفتح بعدي جزيرة تسمى بالأندلس فتغلب عليهم أهل الكفر فيها خذون من أموالهم وأكثر بلدتهم ويسبون نساءهم وأولادهم ويهتكون الاستار ويخربون الديار ويرجع أكثر البلد فيافي وقفاراً وتنجلى أكثر الناس عن ديارهم وأموالهم فيما خذون أكثر الجزيرة ولا يبقى إلا أقلها ويكون في المغرب الهرج والخوف ويستولى عليهم الجوع والغلاء وتكثر الفتنة ويأكل الناس بعضهم بعضاً فعند ذلك يخرج رجل من المغرب الأقصى من أهل فاطمة بنت رسول الله ﷺ وهو المهدى القائم في آخر الزمان وهو أول اشراط الساعة﴾ (الذکر للقرطبی: ص ۷۰۳)

”حضرت امیر معاویہؓ کی ایک طویل حدیث میں مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عذریب میرے بعد اندرس نامی جزیرہ فتح ہو گا اور اس پر کفار غالب آ کر ان کے اموال اور اکثر شہروں پر قبضہ کر لیں گے، ان کی عورتوں اور اولاد کو قید کر لیں گے۔ ان کی عصمت دری کریں گے، شہروں کو اس طرح ویران کر دیں گے کہ اکثر شہر جنگلوں کی مانند ہو جائیں گے، اکثر لوگ اپنے شہر اور مال و دولت کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تھوڑے سے حصہ کے علاوہ پورے جزیرے پر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور مغرب میں قتل اور خوف و ہراس پھیل

جائے گا۔ لوگوں پر بھوک اور مہنگائی غالب آجائے گی، فتنے زیادہ ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے درپے ہوں گے، اس وقت مغربِ اقصیٰ سے حضرت فاطمہؓ کی اولاد میں سے مہدی نامی شخص کا ظہور ہو گا جو آخری زمانے میں ہو گا اور اس کا آنا علامات قیامت میں سے پہلے علامت ہے۔“

(۵) ﴿حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

جهادِ مہدیؑ سنت کی روشنی میں ہو گا:

﴿عن عائشة عن النبي ﷺ قال هو رجل من عترتي فيقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على وحني﴾

(کتاب المتن: ص ۲۶۳)

”حضرت عائشہؓ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مہدیؑ میری اولاد میں سے ایک آدمی ہو گا جو میری سنت کی روشنی میں جہاد کرے گا جیسے میں نے وحی کی روشنی میں جہاد کیا ہے۔“

(۶) ﴿حضرت حفصة رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

مقام بیداء میں لشکر کا خمس جانا:

﴿عن حفصة رضي الله عنها أنها سمعت النبي ﷺ يقول ليؤمن من هذا البيت جيش يغزو نه حتى اذا كانوا بيداء من الأرض يخسف باوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى الا شريد الذي بخبر عنهم﴾ (مسلم شریف: ۲۳۲)

”حضرت حفصةؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کو میں نے یہ فرماتے

ہوئے سن کہ ایک لشکر اس بیت اللہ کا ضرور قصد کرے گا یہاں تک کہ جب وہ بیداء نامی جگہ پہنچے گا تو درمیان والا حصہ زمین میں ہنس جائے گا، یہ دیکھ کر لشکر کے اگلے لوگ پچھلوں کو آواز دیں گے لیکن ان کو بھی دھندا دیا جائے گا اور سوائے مجرم کے کوئی بھی نہ بچے گا۔“ (بعض روایات میں دو آدمیوں کے بچنے کا تذکرہ ہے جن کا نام ویر اور ویر ہوگا۔) (کتاب الحشر ص: ۲۲۸)

### (۷) حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی روایت

نیتوں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا:

عن صفیة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت قال  
رسول اللہ ﷺ لا ينتهي الناس عن غزوتنا الیت  
حتى یغزو جيش حتى اذا كانوا بالبیداء او بیداء من  
الارض خسف باولهم و آخرهم ولم ينج اوسطهم قلت  
يا رسول اللہ! فمن كره منهم؟ قال يعثهم الله على  
ما في انفسهم (رواه احمد وابوداؤد)

”ام المؤمنین حضرت صفیہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بیت اللہ پر لوگ ہمیشہ لشکر کشی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے روانہ ہو کر جب مقام بیداء میں پہنچے گا تو سارا لشکر میں میں ہنس جائے گا۔ اور کوئی بھی نہ بچے گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر اس لشکر میں بعض لوگوں کو زبردستی شامل کر لیا گیا ہو (تو ان کا کیا حکم ہے؟) فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں پر اٹھائیں گے۔“

## (۸) ﴿حضرت ام حبیبة رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

ایک شرقي لشکر کا حملہ:

﴿عَنْ أُمِّ حَبِيبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ نَاسٌ مِّنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ يَرِيدُونَ رِجْلَ  
عِنْدَ الْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءِ الْأَرْضِ يَخْسِفُ  
بِهِمْ﴾ (کتاب البران: ج ۲ ص ۲۳۲)

”حضرت ام حبیبة قمریٰ ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے تاکہ مشرق سے کچھ لوگ بیت اللہ میں موجود ایک آدمی (مہدیؑ کو شہید کرنے) کے ارادے سے نکلیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ مقام بیداء میں پہنچیں گے تو زمین میں دھنادیے جائیں گے۔“

## (۹) ﴿حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

امام مہدیؑ کی اجمالی سوانح حیات:

﴿عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ  
الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَاتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَخْرُجُونَهُ  
وَهُوَ كَارِهٌ فَيَأْتِيهِ يَعْوَنَهُ بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ وَالْمَقَامِ وَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثًا  
مِّنَ الشَّامِ فَيَخْسِفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا  
رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ اتَّاهَ ابْدَالَ الشَّامِ وَعَصَابَ أَهْلِ الْعَرَاقِ  
فَيَأْتِيهِ يَعْوَنَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِّنْ قَرْيَشٍ أَخْوَالَهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ  
إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثَ كَلْبٍ وَالْخَيْةِ  
لَمْ يَشْهُدْ غَنِيمَةً كَلْبٌ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ

بُشَّنَةَ نَبِيِّهِمْ وَيَلْقَى الْإِسْلَامَ بِجَرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ  
يَلْبَثُ سَبْعَ سَنِينَ ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيَصْلِي عَلَيْهِ  
الْمُسْلِمُونَ۔ اخْرَجَهُ أَبْنُ أَبِي شِيْبَةَ وَاحْمَدَ وَأَبْوَدَاوْدَ وَأَبْوَ  
يَعْلَى وَالْطَّبَرَانِيُّ (الحاوی للخواوی: ج ۲ ص ۱۷، ابو داؤد: ۳۸۸۶)

”حضرت ام سلمہ“ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا  
عقریب ایک خلیفہ کی موت کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب میں  
لوگوں کا اختلاف ہو گا، مدینہ والوں میں سے ایک آدمی بھاگ کر  
مکہ آجائے گا، کچھ اہل مکہ ان کے پاس آ کر زبردستی ان سے مجر  
اسودا اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے پھر ان کے  
 مقابلے کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہو گا جو مکہ اور مدینہ کے  
مابین مقام بیداء میں ڈھنس جائے گا، لوگ جب اس کرامت کو  
دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کے عصاب ان کے  
پاس آ کر ان سے بیعت کریں گے۔“

پھر قریش کا ایک آدمی جس کے نھیاں والے بنو کلب ہوں گے، ان  
سے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیج گا تو یہ لوگ اس پر غالب آجائیں  
گے، اس کو ”لشکر کلب“ کہتے ہیں اور وہ شخص بڑا محروم ہے جو بنو کلب  
سے حاصل شدہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر موجود نہ ہو۔ پس امام  
مہدیؑ مال غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں کے معاملات میں سنت  
نبوی کے چیزوں ہوں گے، ان کے زمانے میں اسلام اپنی گردن زمین پر  
ڈال دے گا (اسلام کو احکام نصیب ہو گا) وہ سات سال تک اسی حال  
میں رہیں گے پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کی نماز  
جنازہ کی ادا یا گی (کر کے ان کی تدفین) کریں گے۔“

(۱۰) ﴿حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مهدیؑ کی حکومت:

﴿عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال لا تنہب الدنيا حتی يملک العرب رجل من اهل بيته يواطئ اسمه اسمی. رواه احمد و ابو داؤد والترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح﴾ (ترمذی: ج ۲ ص ۳۶، الماوی للغتاوی: ج ۲ ص ۷۰)

”حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو گی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی، جس کا نام میرے نام کے موافق ہو گا، سر زمین عرب کا مالک نہ ہو جائے۔“

(۱۱) ﴿حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت﴾

امام مهدیؑ کے اعوان و انصار:

﴿روى ابن مردويه عن ابن عباس ضى الله عنهم ما مرفوعا قال اصحاب الكهف اعون المهدى﴾ (الاشاعر: ص ۲۲۲) ”ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ اصحاب کھف امام مهدیؑ کے اعوان و مددگار ہوں گے۔“

(۱۲) ﴿حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مهدیؑ کا حلیہ:

﴿عن ابی سعید الخدرا قال قال رسول الله ﷺ المهدى منی اجلی العجیبۃ اقْنی الْأَنْفَ يَمْلأُ الْأَرْضَ

### قسط و عدلا کما ملت ظلمما وجورا ویملک سبع سنین ﴿ابوداؤر: ج ۲ ص ۲۳۰، و اخیرہ الحاکم ایضا﴾

”حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مہدی مجھ سے (میری اولاد میں سے) ہوں گے، خوبصورت کشاورہ پیشانی اور لمبی ستواں تاک والے ہوں گے زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھردیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و تم سے بھری ہوئی ہوگی اور سات سال حکومت کریں گے۔“

### (۱۳) ﴿حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

دریائے فرات سے سونے کے ستون کا نکلنا:

﴿عن ابی هریرة قال قال رسول الله يوشك الفرات ان يحسر عن کنز من ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا﴾ تحقیق علیہ۔ (مکلوۃ المصانع: ص ۳۶۹)

”حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عنقریب دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس میں سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہو گا تو (تم میں سے) جو اس موقع پر حاضر ہو، وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔“ (کتاب الحقن: ص ۲۳۳ پر کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھی ہی روایت حضرت ابوہریرہؓ سے مروی موجود ہے۔)

### (۱۴) ﴿حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؑ کی بیعت کرنے کی تاکید:

﴿عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالا شديدا لم

یقائله قوم مثلہ فاذارایتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلوج  
فانہ خلیفة اللہ المھدی ﷺ (الاشاعت: ص ۲۲۰)

”حضرت ثوبانؓ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا (تیامت کے قریب) مشرق کے رخ سے سیاہ جنڈے ظاہر ہوں گے اور وہ تم سے ایسی سخت جنگ کریں گے کہ اس جیسی جنگ کسی قوم نے نہ لڑی ہوگی۔ پس جب تم اس کو دیکھ لوتو (اس کے قائد سے) بیعت کرو اگرچہ تمہیں (بیعت کے لیے) برف پر چل کر آنا پڑے کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مهدی ہوگا۔“

(۱۵) ﴿حضرت عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

قیامِ خلافتِ مهدیؐ کے معاونین:

﴿عن عبد اللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی قال قال رسول اللہ ﷺ يخرج ناس من المشرق فیوطنوں للمهدی یعنی سلطانہ﴾ اخرجه ابن ماجہ والطبرانی (ابن ماجہ: ۳۰۸۸)

”حضرت عبد اللہ بن حارثؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مهدیؐ کے لیے (مسئلہ) خلافت کو آسان کر دیں گے۔“

(۱۶) ﴿حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

سرداران اہل جنت:

﴿عن انس قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول نحن ولد عبد المطلب سادة اهل الجنة انا و حمزة و علی و جعفر والحسن والحسین والمهدی﴾ اخرجه ابن ماجہ و ابو

نعیم (ابن ماجہ: ۳۰۸۷)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے  
سنا کہ عبدالمطلب کی اولاد میں ہم (سات لوگ) اہل جنت کے  
سردار ہوں گے، میں خود (حضور ﷺ) حمزہ، علی، جعفر، حسن،  
حسین اور مہدی، رضی اللہ عنہم۔“

### (۱۷) ﴿حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؑ کی دادوہش:

﴿عن جابر قال قال رسول الله ﷺ يکون في آخر امتى  
خليفة يحشى المال حثيا ولا يعده عداه﴾ اخرجه احمد و  
مسلم (مسلم شریف: ۷۳۱۵)

”حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری  
امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہو گا جو لوگوں کو لپ بھر کر بغیر شمار  
کیے مال و دولت سے نوازے گا۔“

فائدہ:

علامہ سیوطیؒ نے اس روایت کو مرفوعاً نقل کیا ہے جبکہ مصنف عبد الرزاق ج ۱ ص ۳۷۲ پر حضرت جابرؓ کی اسی روایت کو موقوفاً نقل کیا گیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ روایت  
مرفوع ہی ہے جیسا کہ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے۔

### (۱۸) ﴿حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

خزانہ بیت المقدس اور امام مہدیؑ:

﴿قال حذیفہ رضی اللہ عنہ فسمعت رسول الله ﷺ

يقول ليستخرجن المهدى ذلك حتى يرده الى بيت المقدس ﴿الأشاعر: ص ۲۲۳﴾

”حضرت حذيفه“ (خزانہ بیت المقدس کی ایک طویل روایت ذکر کرتے ہوئے) فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”مہدی“ اس خزانے کو ضرور نکلا میں گے تا آنکہ اسے بیت المقدس لوٹا دیں گے۔“

(۱۹) ﴿حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام الناس المهدی :

﴿عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ ﷺ سیکون بینکم و بین الرؤوم اربع هدن، یوم الرابع علی ید رجل من اهل هرقل یدوم سبع سنین فقال له رجل یا رسول اللہ! من امام الناس یومئذ؟ قال المهدی من ولدی ابن اربعین سنة کان وجه کوکب دری فی خده الایمن خال اسود عليه عباء تان قطوانیتان کانه من رجال بنی اسرائیل یستخرج الکنوز و یفتح مدائن الشرک﴾ (کتاب البرہان: ج ص ۵۸۲)

”حضرت ابو امامہ“ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا غقریب تمہارے اور وہیوں کے درمیان چار مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی مرتبہ جو صلح ہوگی وہ ہرقل کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ ہوگی جو سات سال تک رہے گی، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان دونوں لوگوں کا امام (خلیفہ) کون ہوگا؟ فرمایا میری اولاد میں سے مہدی نامی ایک شخص (لوگوں کا خلیفہ) ہوگا جس کی عمر ۲۰ سال ہوگی،

چمکدار ستارہ کی طرح روشن چہرہ ہو گا، دامیں رخسار پر سیاہ تل ہو گا، دو سفید عبا میں زیب تن کیے ہوں گے (اور جسم میں) بنی اسرائیل کے ایک آدمی معلوم ہوں گے، زمین کے خزانوں کو نکال لیں گے اور شرک کے (اڑوں اور) شہروں کو فتح کر لیں گے۔“

## (۲۰) ﴿حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما کی روایت﴾

منی میں خون ریزی:

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ يَحْجُّ النَّاسُ مَعَاوِيَرُفُونَ مَعًا عَلَىٰ غَيْرِ أَمَامٍ فَيَنِمَا هُمْ نَزُولٌ بِمَنِي إِذَا أَخْلَنَهُمْ كَالْكَلْبِ فَتَارَتِ الْقَبَائِلُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَاقْتَلُوا حَتَّىٰ تَسْيِلَ الْعَقْبَةَ دَمًا فَيَفِرُّ عَوْنَ الْخِيرُهُمْ فِيَاتُونَهُ وَهُوَ مَلْصُقٌ وَجْهُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَكْسِي كَانِيَ اَنْظَرَ إِلَى دَمْوَعِهِ فَيَقُولُونَ هَلْمٌ فَلَنْ يَأْكُمْ فَيَقُولُ وَيَحْكُمُ كَمْ مِنْ عَهْدٍ نَقْضَتِمُوهُ وَكَمْ مِنْ دَمٍ قَدْ سَفَكْتُمُوهُ فَيَأْبَعُ كَرْهًا فَانَّ اَدْرِكَمُوهُ فَبَايِعُوهُ فَإِنَّهُ الْمَهْدِيُ فِي الْأَرْضِ وَالْمَهْدِيُ فِي السَّمَاءِ﴾ (کتاب الحج: ص: ۲۲۸)

”حضرت عبد اللہ بن عمرؑ فرماتے ہیں کہ (قیامت کے قریب ایک مرتبہ) لوگ حج کے لیے (مکہ مکرمہ) آئیں گے اور میدان عرفات میں جمع ہوں گے لیکن ان کا کوئی امام نہیں ہو گا پھر جب وہ (اگلے دن) منی میں پڑاؤ کریں گے تو (achaik دشمنی کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ) قبائل ایک دوسرے پر کتوں کی طرح حملہ کر دیں گے اور خوب لڑیں گے حتیٰ کہ جرہہ عقبہ خون میں بہہ جائے گا (بھر جائے گا) اس وقت لوگ گھبرا کر کسی بہترین آدمی کو تلاش کریں گے (تاکہ اس کو امام بنائیں اور یہ قتنہ دور ہو) چنانچہ وہ ان کو اس حال میں جائیں گے

کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چمٹا کر رور ہے ہوں گے۔  
 حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسوؤں کو ابھی دیکھ رہا  
 ہوں، لوگ ان سے کہیں گے کہ آئے! ہم آپ کی بیعت کریں، وہ  
 کہیں گے کہ ہائے افسوس! کس قدر وحدوں کو توڑ کر اور کس قدر  
 خوزیری کر کے تم میرے پاس آئے ہو؟ اور مجبور ہو کر لوگوں سے  
 بیعت لیں گے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان سے بیعت کر لینا کیونکہ وہ  
 زمین و آسمان میں مہدی (ہدایت یافتہ) ہیں۔“

(۲۱) ﴿حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی روایت﴾

نفس زکیہ کا قتل:

﴿عن عمار بن یاسر قال اذا قتل النفس الزكية و اخوه  
 يقتل بمكة ضيعة نادى مناد من السماء ان اميركم فلان  
 و ذلك المهدى الذى يملأ الارض خصبا و عدلا﴾  
 اخرجه نعیم بن حماد (الحاوی: ج ۲ ص ۹۱، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۲)  
 ”حضرت عمار بن یاسر“ فرماتے ہیں کہ جب نفس زکیہ اور ان کا  
 بھائی مکہ مکرمہ میں ناجق شہید کر دیئے جائیں گے تو آسمان سے  
 ایک منادی پکارتے گا کہ اے لوگو! تمہارا امیر فلاں آدمی ہے جس کا  
 نام مہدی ہے وہ زمین کوشادابی اور عدل سے بھردے گا۔“

(۲۲) ﴿حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

پوری دنیا کے حکمران:

﴿عن عباس قال قال رسول الله ﷺ ملک الارض اربعة  
 مؤمنان و كافران، فالمؤمنان ذو القرنيين و سليمان،

والكافران نمروذ و بخت نصر وسيملکها خامس من اهل  
بیتی ﴿﴾ اخر جهہ ابن الجوزی فی تاریخہ. (الماوی: ج ۲ ص ۹۷)

”حضرت عباسؑ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا پوری دنیا  
پر حکمرانی کرنے والے چار آدمی گزرے ہیں جن میں سے دو مومن  
تھے اور دو کافر۔ مومن تو ذوالقرینین اور حضرت سلیمانؑ ہیں اور کافر  
نمروذ اور بخت نصر ہیں، عنقریب ایک پانچواں شخص میری اولاد میں  
سے اس کا مالک ہو جائے گا۔“ (جس کا نام مہدی ہو گا)

### فائدہ نمبر ۱:

علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب الماوی للفتاوی ج ۲ ص ۹۷ پر یہ روایت ابن  
جوزی کی تاریخ کے حوالے سے حضرت عباسؑ سے روایت کی ہے جبکہ یہی روایت شیخ علی  
مقیؒ نے کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۵۹ پر بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن  
عباسؑ سے نقل کی ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

### فائدہ نمبر ۲:

نمروذ۔ اصل میں تو یہ لفظ نمروذ ہی ہے۔ لیکن اردو میں اس کو فقط دال کے  
ساتھ نمروذ بولا جاتا ہے۔ جبکہ عربی میں اس کا استعمال دونوں طرح سے ہوتا ہے البتہ نمروذ  
(ذال کے ساتھ) زیادہ فضیح ہے۔

(۲۳) ﴿حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت﴾

### فرشته کی پکار:

﴿عَنْ أَبْنَاءِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ  
الْمَهْدِيُّ وَعَلَى رَأْسِهِ مَلَكٌ يَنَادِيُّ إِنَّ هَذَا الْمَهْدِيُّ  
فَاتَّبِعُوهُ﴾ اخر جهہ ابو نعیم والخطیب فی تلخیص

المتشابه۔ (الحاوی: ج ۲ ص ۳۷، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۱۲)

”حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا امام مهدیؑ اس حال میں ظہور کریں گے کہ ان کے سر پر ایک فرشتہ ہو گا جو یہ نداء کرتا ہو گا کہ (اے لوگو!) یہ مهدی ہیں اس لیے ان کی اتباع کرو۔“

(۲۲) ﴿حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مهدیؑ کی صورت و سیرت:

﴿عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُعْشِنَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَتْرَتِي رِجْلًا أَفْرَقَ الشَّاهِيَّةَ إِلَى الْجَهَةِ يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَيَفْيِضُ الْمَالَ فِي ضَاءٍ﴾ اخرجه ابو نعیم (الحاوی: ج ۲ ص ۶۷، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۲۶)

”حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو ضرور بھیجنیں گے جس کے سامنے کے دونوں دانت انبھائی کشادہ اور پیشانی روشن ہو گی، وہ زمین کو عدل سے بھردے گا اور لوگوں کو خوب مال دے گا۔ (پانی کی طرح بھائے گا۔)“

(۲۵) ﴿حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

علامات ظہور مهدیؑ:

﴿عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَامِتٍ قَالَ قَلْتَ لِابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَى رِضَى اللَّهِ عَنْهُمَا أَمَّا مِنْ عِلَامَاتِ بَنِي يَدِي هَذَا الْأَمْرِ يَعْنِي ظَهُورَ الْمَهْدِيِّ؟ فَقَالَ بَلِي، قَلْتَ وَمَا هِيَ؟ قَالَ هَلَّاكَ بْنِ الْعَبَّاسَ وَخَرَجَ السَّفِيَّانِيُّ وَالْخَسْفُ بِالْبَيْدَاءِ قَلْتَ جَعَلْتَ

فداک اخاف ان يطول هذا الامر قال انما هو كنظام الخرز

(تتبع بعضه ببعض) (كتاب البرہان: ج ۲ ص ۲۵۲)

”محمد بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسینؑ سے پوچھا کیا  
اس امر عظیم یعنی ظہور مہدی سے قبل کچھ علامات بھی رونما ہوں گی؟  
فرمایا ہاں! کیوں نہیں، میں نے پوچھا کہ وہ کیا علامات ہیں؟ فرمایا بنو  
عباس کی ہلاکت، سفیانی کا خروج اور مقام بیداء میں ایک لشکر کا زیمن  
میں دھنس جانا، میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے تو یہ  
اندیشہ ہے کہ یہ معاملہ طویل عرصے کے بعد وقوع پذیر ہو گا۔ فرمایا کہ  
یہ موتی کی لڑی کی طرح ہو گا کہ ایک کے پیچھے دوسرا آ جاتا ہے۔  
(لڑی کی نوشے کے بعد جب ایک دانہ گرتا ہے تو دوسرا بھی فوراً گر جاتا  
ہے اسی طرح یہ واقعات بھی یکے بعد دیگرے پیش آ جائیں گے۔“

(۲۶) (حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت)

فتول کی آگ:

﴿عَنْ طَلْحَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتَكُونُ  
فَتْنَةٌ لَا يَهْدِي مِنْهَا جَانِبَ الْأَجَاشِ مِنْهَا جَانِبٌ حَتَّى يَنَادِي  
مَنَادٌ مِنَ السَّمَاءِ أَنَّ امِيرَ كَوْفَلَانِ﴾ اخرجه الطبراني

(الحاوی: ج ۲ ص ۳۷، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۰)

”حضرت طلحہؓ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عتیریب ایک  
ایسا فتنہ بھڑک کے گا کہ ایک جانب سے ختم نہ ہونے پائے گا کہ دوسری  
جانب بھڑک اٹھے گا اور یہ فتنہ برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ  
آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا امیر فلاں آدمی ہے۔“

(۲۷) ﴿حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

ظہور مہدی کی ایک علامت:

﴿عن عمرو بن العاص قال علامة خروج المهدی اذا

خسف جیش فی البداء فهو علامة خروج المهدی﴾

آخر جه نعیم (المادی: ج ۲ ص ۸۱، کتاب البرہان: ج ۲۰ ص ۲۶۷)

”حضرت عمرو بن العاص نے خروج مہدی کی علامت مقام بیداء میں ایک لشکر کا زمین میں ڈنس جانا بیان کی ہے۔“

(۲۸) ﴿حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا آنا:

﴿قال عبد الرحمن الجرجشی سمعت عمرو بن مرة

الجملی صاحب رسول الله ﷺ يقول لتخرجن من

خراسان رایہ سوداء حتى تربط خيولها بهذا

الزيتون الذي بين بيت لهيا و حرستا، قلت مابين هاتين

زيتونة قال سينصب بينهما زيتون حتى ينزلها اهل

تلك الرایة فتربط خيولها بها.﴾ (کتاب الحسن: ص ۲۱۵)

”عبد الرحمن الجرجشی کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت عمرو

بن مرہ الجملیؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈا

ضرور نکلے گا یہاں تک کہ (اس جھنڈے کے ماتحت لشکر کے لوگ)

بیت لهیا اور حرستا کے درمیان زیتون کے درخت پر اپنے گھوڑوں کو

باندھیں گے، ہم نے پوچھا کہ کیا ان دونوں کے درمیان زیتون کا

کوئی درخت ہے؟ فرمایا کہ اگر نہیں ہے تو عنقریب لگ جائے گا

تا آنکہ کہ وہ لوگ یہاں آ کر اپنے گھوڑے باندھ لیں۔“

(۲۹) ﴿حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مهدی کا نام:

﴿عن ابی الطفیل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ

قال المهدی اسمه اسمی واسم ابیه اسم ابی﴾

(کتاب الشن: ص ۲۶۰)

”حضرت ابو الطفیل“ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ  
مهدی کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا نام میرے والد کے  
نام پر ہو گا۔“

(۳۰) ﴿حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

یکے بعد دیگرے فتنوں کا ظہور:

﴿عن عوف بن مالک ان النبی ﷺ قال تجئ فتنۃ  
غیراء مظلمة ثم تتبع الفتنة بعضها حتى يخرج رجل من  
أهل بيته يقال له المهدی فان ادركته فاتبعه وكن من  
المهتدین﴾ اخر جه الطبراني

(الحاوی: ج ۲۲، ص ۸۰، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۲۱۱)

”حضرت عوف بن مالک“ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا  
(عقریب) انہیں رات کی طرح چھا جانے والا ایک فتنہ پا ہو گا،  
اس کے بعد پے در پے فتنے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے حتیٰ کہ  
میرے اہل بیت میں سے مهدی نامی ایک شخص ظاہر ہو گا، اگر تم اسے  
پاؤ تو اس کی اتباع کر کے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جانا۔“

## (۳۱) ﴿حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

آسمان سے ایک ہاتھ کا ظہور:

﴿عن الزهرى قال اذا التقى السفيانى والمهدى للقتال يومئذ يسمع صوت من السماء الا ان اولياء الله اصحاب فلان يعني المهدى. قال الزهرى وقالت اسماء بنت عمیس ان امارة ذلک اليوم ان کفامن السماء مدللة ينظر اليها الناس﴾ (کتاب الفتن: ص ۲۲۴)

”امام زہریؓ فرماتے ہیں کہ جب سفیانی اور امام مهدیؓ قاتل کے لیے آئنے سامنے ہوں گے تو اس دن آسمان سے ایک آواز سنائی دے گی کہ اے لوگو! خبردار! اللہ کے دوست فلاں یعنی مهدی کے ساتھی ہیں۔ امام زہریؓ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت اسماء بنت عمیسؓ نے فرمایا اس دن کی علامت یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک لٹکا ہوا ہاتھ (ظاہر ہو گا جو) امام مهدیؓ کے لشکر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں گا اور لوگ بھی اس ہاتھ کو دیکھیں گے۔“

## (۳۲) ﴿حضرت قرة المزنیؓ کی روایت﴾

امام مهدیؓ کی مدت حکومت:

﴿عن قرة المزنی قال قال رسول الله ﷺ لملئون الارض جوراً و ظلماً فإذا ملئت جوراً و ظلماً بعث الله رجلاً مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً فلا تمنع السماء شيئاً من قطرها ولا الأرض شيئاً من نباتها يمكث فيهم سبعاً

اوٹمانیا فان اکثر فتسعا ﴿ (الحاوی: ج ۲ ص ۲۳)﴾

”حضرت قرۃ المریضؑ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم زمین کو ضرور ظلم و ستم سے بھر کر رہو گے، چنانچہ جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہو گا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہو گی، ان کے زمانے میں آسمان اپنا تمام پانی بہادے گا اور زمین اپنی تمام نباتات اگل دے گی، وہ لوگوں میں سات یا آٹھ یا زیادہ سے زیادہ نوسال رہیں گے۔“

(۳۳) ﴿ حضرت قیس بن جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ﴾

امام مہدیؑ کے بعد قحطانی خلیفہ ہوگا:

﴿ عن قیس بن جابر الصدفی ان رسول اللہ ﷺ قال سیکون من اهل بیتی رجل یملأ الارض عدلاً كما ملئت جوراً ثم من بعده القحطانی والذی نفی بیده ما هو دونه ﴿ (الحاوی: ج ۱ ص ۹۵)﴾

”حضرت قیس بن جابر الصدفی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عنقریب میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہو گی پھر ان کے بعد قحطانی ہو گا اور اس ذات کی قسم! جس کے قبیلے میں میری جان ہے، وہ ان سے کم نہ ہو گا۔“

## (۳۴) ﴿حضرت جابر بن سمرة رضي الله عنه کی روایت﴾

بارة خلفاء والی روایت:

﴿عن جابر بن سمرة عن رسول الله ﷺ انه قال لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون النان عشر خليفة كلهم مجتمع عليه الامة﴾ (الحاوی: ج ۲ ص ۱۰۲)

”حضرت جابر بن سمرةؓ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ بازہ خلیفہ ایسے ہو جائیں جن پر پوری امت متفق ہوگی۔“

فائدہ:

علامہ سیوطیؒ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں امام مہدیؑ کے وجود کی طرف اشارہ ہے اور وہی بارہویں خلیفہ ہوں گے کیونکہ گیارہ خلفاء کے بعد اب تک کوئی بارہوں خلیفہ ایسا نہیں آیا کہ اس کی خلافت پر پوری امت مجمع ہو سکی ہو۔

## (۳۵) ﴿حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضي الله عنه کی روایت﴾

دین کا مثالہ:

﴿عن ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا يزال هذا الامر قائما بالقسط حتى يكون

اول من يظلمه رجل من بنى امية﴾ (کتاب المتن: ص ۱۹۰)

”حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا دین کا یہ معاملہ ثحیک چtar ہے گا یہاں تک کہ بنی امية میں سے ایک شخص سب سے پہلے اس کا مثالہ کرے گا۔“

یہ روایت وجود سفیانی پر ولالت کر رہی ہے اور خروج سفیانی علامت ہے ظہور مہدیؐ کی۔ گویا اس روایت سے بھی ظہور مہدیؐ کا ثبوت ملتا ہے۔

(۳۶) ﴿حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

دریائے فرات سے نکلنے والا خزانہ:

﴿عن عبد الله بن العارث بن نوفل قال كنت واقفا مع

ابى بن كعب فقال لا يزال الناس مختلفة اعناقهم فى

طلب الدنيا قلت اجل قال انى سمعت رسول الله ﷺ

يقول يوشك الفرات ان يحرس عن جبل من ذهب

فاذاسمع به الناس ساروا اليه فيقول من عنده لئن ترکنا

الناس ياخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتلون عليه

فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون﴾ (سلم: ۷۲۶)

”عبدالله بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعبؓ

کے پاس کھڑا تھا کہ حضرت ابیؓ فرمانے لگے طلب دنیا میں لوگوں کی

گردیمیں ہمیشہ مختلف رہی ہیں میں نے عرض کیا جی بالکل! پھر فرمایا کہ

میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ عنقریب دریائے

فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہو گا۔ جب لوگ یہ خبر سنیں

گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں موجود لوگ یہ سوچیں گے کہ

اگر ہم نے لوگوں کو اس کے لیجانے کی چھوٹ دے دی تو لوگ یہ سارا

ہی لیجائیں گے (اور ہمیں کچھ بھی نہ ملے گا) چنانچہ وہ اتنا قاتل کریں

گے کہ ہر سو میں سے ننانوے افراد قتل ہو جائیں گے۔“

## (۳۷) ﴿حضرت ذی مخبر رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

رومیوں سے جنگ کا تذکرہ:

﴿عَنْ حَسَانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَا لِمَكْحُولٍ وَابْنِ أَبِي زَكْرِيَا إِلَى خَالِدٍ  
بْنِ مَعْدَانَ، وَمَلَتْ مَعْهُمْ فَحَدَثَنَا عَنْ جَبِيرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنِ الْهَدْنَةِ قَالَ  
قَالَ جَبِيرٌ انْطَلَقَ بَنَا إِلَى ذِي مَخْبَرٍ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ  
فَاتَّسَاهُ فَسَأَلَهُ جَبِيرٌ عَنِ الْهَدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
يَقُولُ سَتَصَالُهُنَّ الرُّومُ صَلَحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عُدُوًا مِنْ  
وَرَائِكُمْ فَتَصْرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسْلِمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزَلُوا  
بِمَرْجِ ذِي تَلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلَبَيْ فَيَقُولُ  
غَلْبَ الصَّلَبِ فَيَغْضُبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْقُهُ فَعَنْدَ ذَلِكَ  
تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمِعُ لِلْمُلْحَمَةِ﴾ (ابوداؤ: ۲۲۹۲)

”حسان بن عطيه کہتے ہیں کہ مکحول اور ابن ابی زکریاء، خالد بن معدان کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، خالد نے ہمیں حضرت جبیر بن نفیر کے حوالے سے صلح روم کے متعلق یہ حدیث سنائی کہ حضرت جبیر ایک مرتبہ مجھ سے فرمانے لگے آؤ! ذرا حضور ﷺ کے ایک صحابی ذی مخبر کے پاس چلتے ہیں چنانچہ ہم ان کے پاس پہنچے، جبیر نے ان سے صلح روم کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ تم عنقریب رومیوں سے امن و امان کی صلح کرو گے۔ اور ایک دشمن کے خلاف تم اور روی جہاد کرو گے، تمہیں فتح، مال غنیمت اور سلامتی نصیب ہوگی پھر تم واپس لوٹ کر مرج ذی تلول مقام پر پڑاؤ! ڈالو گے، اس موقع پر ایک عیسائی صلیب کو اونچا کر کے پکارے گا ”صلیب کی جے“ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اس کو گرادے گا اس موقع پر روی عہد شکنی کریں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔“